

اسلام اور اجتماعیت

مولانا صدر الدین اصلاحی

اسلامکٹ سکیٹیج لمیٹڈ، لاہور

15



# اسلام اور اجتماعیت

صدرالدين اصلاحی

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ

۱۳- ای، شاہ عالم مارکٹ، لاہور۔ (پاکستان)

جمہلہ حقوق بجن ناشر محفوظ ہیں

اشفاق مرزا مینجنگ ڈائرکٹر

طالب

اسلاک پبلیکیشنز لمیٹڈ

ناشر

۱۳-ای-شاہ عالم مارکیٹ لاہور

شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

مطبع

اشاعت:

۲۱۰۰	۱۹۶۳ء	اول
۱۰۰۰	جون ۱۹۶۷ء	دوم
۱۰۰۰	جولائی ۱۹۶۸ء	سوم

قیمت ۵۰ - ۹ روپے

پلاگ کرد ۱.75

# فہرست مضامین

عرضِ ناشر

مقدمہ

اسلام میں اجتماعییت کا مقام

السنائی فطرت اور اجتماعییت

اسلام، دینِ فطرت

دینِ فطرت ہونے کا واضح تقاضا

اجتماعییت کی تسلیم شدہ دینی اہمیت

۱۔ عمرانی تصور کی زبان سے

۲۔ تنظیمی احکام کی زبان سے

۳۔ عام اجتماعی ہدایات کی زبان سے

۴۔ عبادتوں کے اجتماعی آداب کی زبان سے

اہمیت کی وجہ

- ۶۱ غیر اجتماعی زندگی کے خوفناک نتیجے
- ۶۲ ۱۔ ماحول کی باطل نوازی
- ۶۵ ۲۔ اتباعِ دین کا لازمی نقص
- ۷۰ ۳۔ دینی حس کا پیہم زوال
- ۷۲ اجتماعی زندگی کے بیش بہا اثرات
- ۷۶ گوشہ نشین بزرگوں کا مسئلہ
- ۷۹ اسلامی اجتماعیت
- ۷۹ مقصدِ اجتماع
- ۸۲ شیرازہٴ اجتماع
- ۸۶ طریقِ اجتماع
- ۹۲ اسلامی اجتماعیت کی پہلیتِ کاملہ
- ۹۲ حکومتی نظام کی ناگزیر ضرورت
- ۹۶ اسلام اور نظامِ حکومت
- ۹۸ نظامِ خلافت کا شرعی وجوب
- ۱۱۰ خلافت کے فرائض
- ۱۱۳ خلافت کے حقوق
- ۱۲۳ طاعت کی حدود
- ۱۲۷ خلفاء کی معزولی
- ۱۳۰ معزولی کے مسئلے پر تمدنی ارتقاء کا اثر

۱۴۹

نظامِ خلافت کی وحدت

۱۵۵

ملی انتشار کے دینی تقاضے

۱۵۵

نظمِ اجتماعی کی بحالی کی ضرورت

۱۶۰

نظمِ اجتماعی کی بحالی کا طریقہ

۱۶۶

تنظیم نو کی عملی شکل

۱۸۵

گوشہ گیری

۱۸۵

گوشہ گیری کی مشروریت

۱۸۶

عزیمت نہیں رخصت

۱۹۶

حالات و شرائط

۱۹۹

عمل کی صورتیں

۲۰۱

فیصلے میں احتیاط کی ضرورت

سرحدات رجسٹری نمبر ۱۱۱۱۱  
 دار المطابع  
 کتاب لبریری  
 ۲۰۱۱

# عرض ناشر

مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب دینی حلقوں میں جانے پہچانے آدمی ہیں۔  
متعدد موضوعات پر آپ کی گرانقدر تالیفات مثلاً فریقہ اقامت دین، اساس دین کی  
تعمیر، اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ، معرکہ اسلام و جاہلیت وغیرہ علمی اور دینی  
حلقوں سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ اصابتِ راستے، گہری دینی بصیرت،  
کتاب و سنت سے براہِ راست استدلال اور ٹھوس علمی مواد آپ کی تالیفات  
کی خصوصیات ہیں۔

پیش کردہ تالیف "اسلام اور اجتماعیت" وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا  
کرتی ہے اور دینی لٹریچر میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ یہ کتاب جہاں ایک طرف  
قرار پسند طبیعتوں کو رزم گاہِ خیر و شر میں دعوتِ عمل دیتی ہے وہیں دوسری طرف  
مجاہدین حق کو کشمکشِ حیات میں سامانِ ثباتِ قدمی فراہم کرتی ہے۔ یہ کتاب جہاں  
عاقبتِ کوششوں کے لیے تازیا تہ عمل ہے۔ وہیں سرگرم عمل محنت کوششوں کے لیے  
انجام دہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب ان تمام اجتماعی مساعی کے لیے مدد و معاون  
اور باعثِ تقویت ہوگی، جو غیر اسلامی قوتوں سے نبرد آزما ہیں۔

نیازمند

اشفاق مرزا مینجنگ ڈائریکٹر



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## مقدمہ

عمل کا زوال اگر زیادہ عرصہ تک باقی رہے تو وہ صرف عمل ہی کا زوال نہیں رہتا، بلکہ پہلے جذبات و احساسات کا، اور پھر اندکار و تصورات کا بھی زوال بن جاتا ہے۔ جب کوئی قوم یا ملت اپنی اصل حیثیت زندگی کے میدان میں کھو بیٹھتی ہے تو وہ اسے اپنے ذہن میں بھی زیادہ دنوں تک ٹھیک ٹھیک محفوظ نہیں رکھ سکتی اور اس پر خود ناشناسی کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں۔ وہ بھولنے لگتی ہے کہ اس زمین پر اس کا وجود کس غرض کے لیے ہے اور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے اسے کون سا طرز فکر اور طریق کار اپنانا چاہیے؟

ملت اسلامیہ پر ایک مدت سے یہ نفسیاتی عمل طاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو قائم کرنا، اور قائم رکھنا، ساری دنیا کے لیے حق کا شاہد اور نگران بننا، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، اور خیرِ کامل کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اس کی منصبی ذمہ داری تھی۔ یہی اس کے وجود کی کل غایت تھی اور یہی اس

کی اصل حیثیت تھی۔ اس نے ایک وقت تک اس ذمہ داری کو اس طرح انجام دیا جس طرح انجام دینے کا حق تھا، اور صرف اسی نے نہیں، بلکہ دوسروں نے بھی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس ملت کی غایت وجود اور اس کی اصل حیثیت یہ ہے۔ پھر اس کی غفلتوں نے اس کی زندگی کی بساط اُلٹ دی اور اسے اپنی اس حیثیت سے عملاً محروم کر کے رکھ دیا۔ اس محرومی نے فطری طور پر مزید محرومیوں کو جنم دینا شروع کر دیا اور اب صورت حال یہ ہے کہ اسے اپنا مقصد وجود، اپنے اصولِ حیات اور اپنے دینی تصورات، لفظوں کی حد تک تو ضرور یاد رہ گئے ہیں مگر یہ یاد رکھنا بہت مشکل ہے کہ ان کے معانی بھی صحیح طور پر اسے یاد رہ گئے ہیں۔ اور اگر یہ بھی یاد رکھ لیا جائے، تو کم از کم یہ تو کسی حال میں بھی نہیں مانا جاسکتا کہ جذباتی اور فکری طور پر بھی اس کے اندر ان کی اہمیت کا احساس باقی رہ گیا ہے۔

اپنی اصولِ حیات اور دینی تصورات میں سے ایک اہم ترین چیز اس کے اجتماعی کردار اور اس کی اپنی مخصوص تنظیم کا مسئلہ بھی ہے۔ جو بظاہر ایک مسئلہ ہے، لیکن فی الواقع متعدد مسائل کا جامع ہے، اور غلط نہ ہوگا اگر اسے ملتِ اسلامیہ کی شہرگ سمجھا جائے۔ اتنے اہم مسئلہ کی حقیقت سے، اس کی اہمیت سے، اور اس کے عملی مطالبات سے عام دل و دماغ افسوسناک حد تک بیگانہ ہو چکے ہیں۔ اس بیگانگی کا حال یہ ہے کہ آج ملت کے چارہ سازوں کا ایک گروہ تو اس کے تصور ہی سے پریشان ہوا اٹھتا ہے، اور دین کے اجتماعی کردار اور ملت کی تنظیم کو زمانہ کا سب سے بڑا کفر سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک لوگ ہر کام کے

یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہر مقصد تنظیم کی بنیادین سکتا ہے، ہر مشن اور ازم، کی خاطر گروہ سازی کی جاسکتی ہے، لیکن مسلمان بحیثیت مسلمان، اور اسلام کی خاطر ہرگز منظم نہیں ہو سکتے۔ دوسرے لوگ اگرچہ اس طرح نہیں سوچتے، اور وہ مسلمانوں کے متحد ہو جانے کو اپنی محبوب ترین تمنا سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان متحد و منظم کس لیے ہوں؟ کس طرح ہوں، کن بنیادوں پر ہوں؟ اور اگر نہ ہوں تو اس کا حقیقی نقصان کیا ہے؟ یہ جاننے اور بتانے والے ان میں سے بھی بہت کم ملیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کہنے والے جو کچھ کہتے سُنے جاتے ہیں، اس سے بسا اوقات ”کلمۃ حقّ اُریدَ بِہَا الباطلُ“ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ نام تو ملت اسلامیہ کی تنظیم کا لیا جاتا ہے، مگر اس کا مفہوم، اس کی غایت، اس کا طریقہ، سب کا سب عموماً وہ ہوتا ہے جو اسلامی سے زیادہ غیر اسلامی ہوتا ہے۔ مسلمان جس مرکز پر، اور جس طرح بھی متحد ہو جائیں، وہ ان کے نزدیک اسلامی اتحاد اور ملی تنظیم ہے۔ حالانکہ اسلام نے مسلمانوں کو صرف اللہ کی کتاب پر، اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہی منظم ہونے کی تلقین کر رکھی ہے۔ مسلمانوں کی ہر اجتماعی ہئیت ان کی نظر میں اسلام کی متاعِ مطلوب ہے، حالانکہ اس کو صرف ”جماعت“ نہیں، بلکہ ”الجماعۃ“ مطلوب ہے، اور ”الجماعۃ“ کا مفہوم بقول علامہ رشید رضا مصری، ”زمانہ نبوت میں مسلمانوں کی ایسی ہئیت اجتماعی سے تھا جو کتاب و سنت کے احکام کو زیر عمل لاکر دین کو قائم رکھے۔“

(تفسیر المنار جلد ۶، صفحہ ۳۶۷)

اس صورت حال کا شدید مطالبہ تھا کہ اس اہم ترین مسئلہ کے تمام ضروری پہلو

کتاب و سنت کی روشنی میں بالکل واضح کر دیئے جائیں تاکہ جب علی اتحاد و تنظیم کی باتیں کی جائیں اور کوششیں انجام دی جائیں، تو معاملہ کی حقیقی نوعیت نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، اور یہ اچھی طرح معلوم رہے کہ اسلام نے جس اجتماعیت اور تنظیم کا حکم دیا ہے وہ فی الواقع ہے کیا؟ وہ دین و ملت کو کس حد تک مطلوب ہے؟ اور کیوں مطلوب ہے؟

یہ کتاب دراصل اسی مطالبہ کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ خدا کرے کہ یہ کوشش کامیاب ہوئی ہو۔

صدرالدین

دوشنبہ، ۱۲ ذی الحجہ ۱۳۸۱ھ

# اسلام میں اجتماعیت کا مقام

## انسانی فطرت اور اجتماعیت

جس طرح بچہ کے تصور کے ساتھ ماں کی گود کا تصور بھی آئے بغیر نہیں رہتا، اسی طرح انسانی زندگی کے ساتھ اجتماعیت کا تصور بھی لازماً آتا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں پایا جاتا جب انسان اجتماعیت سے یکسر بے نیاز رہا ہو، چنانچہ تاریخ کے دھندلے سے دھندلے گوشوں میں بھی اس کے آثار ناپید نہیں رہیں۔ جب تمدن کی داغ بیل بھی نہیں پڑی تھی، جب انسان غاروں کے باہر بھی نہیں آسکا تھا، جب اس نے غلے اگانے اور کپڑے بنانے کی بات بھی نہ سوچی تھی، جب درختوں کے سائے اور پھل پتے ہی اس کے لیے مدارِ حیات تھے، اس وقت بھی وہ خاندانوں کی شکل میں مل جُل کر رہتا تھا، اور اس اجتماعیت کو وہ اپنا گہوارۂ زندگی سمجھتا تھا۔ پھر جوں جوں اس کا ذوق تمدن ابھرتا گیا، اور وسیع تر اجتماعیت کی رکاوٹیں مچھلتی گئیں، اس کی اجتماعیت پسندی پر بھی جلا آتی گئی۔ خاندانی اکائیاں وحدت میں، اور پھر قبائلی وحدتیں قومی اجتماعیت

میں تبدیل ہوتی گئیں، اور اب یہ قومی اجتماعیتیں ایک عالمی اجتماعی ادارے، بلکہ ایک بین الاقوامی کونسل میں تحلیل ہو جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔

انسان کا یہ طرز عمل مسلسل کیوں چلا آ رہا ہے؟ وہ پہلے ہی دن سے اجتماعیت کا طالب کیوں ہے؟ اور رفتارِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی یہ طلب کیوں بڑھتی اور نکھرتی گئی ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں باتفاقِ رائے یہی کہا جاتے گا کہ کچھ ایسے زبردست عوامل ضرور ہیں جو اسے اپنے دوسرے انسان سے نوع سے بے تعلق نہیں رہنے دیتے، جو اسے اندر ہی اندر مجبور کیے رکھتے ہیں کہ ان سے مل کر رہے، اور علیحدگی اور تنہائی کے بجائے ان کی معیت میں زندگی بسر کرے۔ اپنے اندر کی دنیا کا جائزہ لیجئے تو پائیں گے کہ یہ عوامل تعداد میں دو ہیں: ہم جنسی کشش اور "تعاون کی احتیاج"۔

"ہم جنسی کشش" سے مراد یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر اپنے ہم جنسوں سے ایک خاص اُتس رکھتا ہے، ان کے لیے اپنے اندر ایک گہری کشش پاتا ہے، ان کی معیت اور ہم نشینی میں ایک فرحتِ بخش سکون محسوس کرتا ہے، اور ان سے یکسر علیحدگی اُسے بے چین بنا دیتی ہے اور مسلسل یا طویل تنہائی وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے۔

"تعاون کی احتیاج" کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کی ذاتی اور انفرادی قوتیں حد درجہ محدود ہیں، دوسری طرف اُن کے مقابلہ میں اس کی ذنیوی ضرورتیں حد درجہ بڑی اور وسیع ہیں، اس لیے یہ قوتیں ان ضرورتوں کے معاملہ میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتیں اور وہ انہیں صرف اپنے ذاتی بل بوتے پر کسی طرح پورا نہیں

کر سکتا، حتی کہ جن ضرورتوں کو بالکل بنیادی اور ناگزیر ضرورتیں کہا جاتا ہے، ان کا پورا کر لینا بھی اس کے لیے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دوسرے بہت سے لوگ اس کی بلا واسطہ یا بالواسطہ مدد نہ کریں۔

اس طرح اجتماعیت انسان کی فطری طلب بھی ہے اور فطری ضرورت بھی۔ وہ دوسرے افراد انسان کی طرف ہم جنسی کے پیدائشی جذبہ کے تحت، بے اختیار کھینچتا بھی ہے، اور اپنی ذمیوی ضرورتوں کے تحت ان کا محتاج بھی بنا رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی فطرت کی گہرائیوں میں اجتماعیت پسندی کی دو مضبوط جڑیں بالکل ساتھ ساتھ اُتری ہوئی ہیں۔ اس لیے اگر وہ اجتماعیت سے کبھی بے گانہ یا بے نیاز نہیں پایا گیا تو یہ ایک قدرتی بات تھی، اور انسان جب تک انسان ہے یہ بات اس کے لیے ہمیشہ قدرتی اور لازمی ہی رہے گی۔ یہ ایک ایسی مانی ہوئی حقیقت ہے جس کے بارے میں علم و دانش کے کسی دور میں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ دورِ قدیم کے مشہور یونانی عالم و فلسفی، ارسطو نے انسان کی تعریف میں یہ الفاظ کہے ہیں:

”انسان پیدائشی طور پر ایک سیاسی حیوان ہے“

(ارسطو کی سیاسیات، ۱۲۵۳۰-الف)

سیاست، ظاہر ہے کہ اجتماعیت ہی کی آخری شکل کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے ”سیاسی حیوان“ کے معنی ہوتے ہیں وہ حیوان جو آخری اور انتہائی حد تک اجتماعیت پسند واقع ہوا ہو۔ گویا ارسطو کے نزدیک انسان کی وہ خاص صفت، جو اسے حیوانات سے الگ اور ممتاز کرتی ہے، اس کی یہی آخری درجہ کی اجتماعیت

پسندی ہی ہے۔ اس کے اندر اگر یہ صفت نہ ہوتی تو وہ بھی منجملہ دوسرے حیوانوں کے فقط ایک حیوان ہوتا۔

وسطی دور کے معروف عالم اور محقق علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ:-

”افراد انسانی کا اکٹھے مل کر رہنا سہنا ایک ناگزیر بات ہے،

اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اہل علم و دانش اس طرح بیان کرتے

ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مذہبت پسند واقع ہوا ہے۔“

(مقدمہ ابن خلدون)

یہاں تک موجودہ دور کے علماء اور فلاسفہ کا تعلق ہے، ان کے یہاں

تو یہ بات ایسی مسلمہ حقیقتوں کی صف میں شامل ہو چکی ہے جو کسی بحث یا ثبوت کی

بالکل محتاج نہیں ہوتیں۔

قرآن مجید علم النفس یا علم الاجتماع کی کتاب نہیں کہ اس میں انسان

کے جذبہ اجتماعیت کے متعلق کوئی براہ راست گفتگو پائی جاسکے۔ لیکن اس کے

باوجود اپنے دائرہ بحث میں وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے پیچھے چونکہ دوسری

بہت سی علمی حقیقتوں کی طرح انسانی نفسیات کے حقائق بھی ملحوظ رہتے ہیں،

جیسا کہ ملحوظ رہنا چاہیے، اس لیے ضمناً ان حقائق کی طرف بھی اس نے واضح اشارے

کیے ہیں۔ ان اشارات کا جائزہ لیجیے تو صفات محسوس ہوگا کہ قرآن حکیم بھی انسانی

فطرت کو اجتماعیت پسندی قرار دیتا ہے۔ مثلاً جب وہ یہ فرماتا ہے کہ نوع انسانی

کی دونوں صنفوں میں ان کے خالق نے باہمی محبت اور رحم ولی پیدا کر رکھی ہے،

وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (سورہ روم: ۲۱) تو گویا بالواسطہ وہ یہی



کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اجتماعیت کا دلدادہ پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح آخرت کی خوش کامیوں اور جنت کی نعمتوں کی تفصیل بیان کرتے وقت جب وہ اہل جنت کی ہم نشینی، ہم طعامی اور ہم کلامی کا بھی تذکرہ ضروری سمجھتا ہے، تو گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اجتماعیت انسانی فطرت کی ایسی عزیز طلب ہے جس سے وہ اس دنیوی زندگی میں کیا آخرت کی زندگی میں بھی اونچی نہیں ہو سکتی، اور وہاں بھی انسان کی تسکین خاطر اور تکمیل مسرت اسی وقت ہوگی جب کہ اسے اپنی جنس کے دوسرے افراد کی رفاقت اور مصاحبت میسر ہو۔

### اسلام، دینِ فطرت

انسانی فطرت کا پر رُخ اپنے سامنے رکھیے۔ اس کے بعد اس امر کی تحقیق کیجیے کہ انسانی فطرت کے مطالبوں کو اسلام کیا حیثیت دیتا ہے؟ تاکہ قیاسی اور اصولی طور پر اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ اسلامی نظام فکر و عمل میں

لَمْ يَتَنَازَعُوا فِيهَا عَلَى سُرْمٍ مُّتَقَابِلِينَ - (سورہ حجر: ۴۷)

”جنت والے بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے“

يَتَنَازَعُو فِيهَا كَاسًا..... وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

يَتَسَاءَلُونَ - (سورہ طور: ۲۳-۲۵)

”وہ جنت میں شراب بھرے پیالوں کی چھینا چھٹی کریں گے..... اور ایک

دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں باتیں کریں گے“

اجتماعیت اور اس کے عملی تقاضوں کو کوئی جگہ ملنی چاہیے یا نہیں؟  
انسانی خلقت کے بارے میں قرآن مجید کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  
انسان کے نفس (قلب) کا "تسویہ" کیا ہے۔

وَنَفْسٍ ذَمَّاهَا۔

(سورۃ الشمس: ۷)

"تسویہ" کے معنی، لغت میں کسی چیز کو خوب درست کرنے کے ہوتے  
ہیں۔ دوسری جگہ اسی بات کو اس نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ہم نے  
انسان کو "احسن تقویم" میں پیدا کیا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔

(سورۃ العین: ۴)

"تقویم" کے معنی سیدھا کرنے کے ہوتے ہیں، اور خوب کسی چیز کے باطن  
اور اس کی صفات کو بھی سامنے رکھ کر اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہو تو اس وقت  
قدرتی طور پر اس کا مطلب اس چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے موزوں و مناسب  
بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو "احسن تقویم" میں پیدا کرنے کے معنی یہ  
ہیں کہ اسے ایسی ساخت عطا کی گئی ہے جو اس کے مقصد و وجود کے لحاظ سے  
بہترین ساخت ہو سکتی تھی۔ ان وجوہاتوں کے پیش نظر انسان کا "تسویہ"

کرنے یا اسے "احسن تقویم" میں پیدا کرنے کا واضح مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد  
پیدا کیا ہے اور اسے دنیا میں جو فریضہ انجام دینے کے لیے بھیجا ہے،

ٹھیک اسی کے حسبِ حال اور حسبِ ضرورت اس کی فطرت بھی اس نے بنائی ہے۔  
ایسا نہیں ہے کہ اس مقصد اور فریضہ کی انجام دہی کے لیے جن قوتوں اور صلاحیتوں  
کی اسے ضرورت تھی، اور جن رُجحانات و میلانات سے اس کا خمیر اٹھایا جانا  
چاہیے تھا، ان میں سے کسی ایک قوت یا کسی ایک رُجحان سے بھی اسے محروم  
رکھا گیا ہو، یا ان قوتوں اور رُجحانوں کے علاوہ کچھ زائد قوتیں اور رُجحانات بھی  
اس کے اندر پیدا کر دیے گئے ہوں۔

ایک طرف تو انسانی فطرت کی حیثیتِ اسلام کی نگاہ میں یہ ہے دوسری  
طرف اس دین کا کہنا یہ ہے کہ میں، اور صرف میں ہی، وہ شاہراہ ہوں جس پر  
چل کر انسان اپنے مقصد و وجود کو ٹھیک ٹھیک پورا کر سکتا اور اپنے فریضہ جیت  
کو صحیح طور پر بجالا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ عقل کا بدیہی تقاضا ہوگا کہ اسلام  
انسانی فطرت کو ذرا بھی نظر انداز نہ کرے، بلکہ اس کی بنیاد ٹھیک اسی فطرت پر  
ہو، اور اس کی تعلیمات دراصل اسی فطرت کے عمل تقاضوں کی تفصیل اور اسی  
کی مبہم صداؤں کی توجیح ہوں۔ کتابِ الہی اور ارشاداتِ رسولؐ سے معلوم ہوتا  
ہے کہ عقل کا یہ تقاضا غلط نہیں۔ حقیقت واقعی یہی ہے کہ اسلام انسانی  
فطرت کو بال برابر بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور اس کی بنیاد کا ملا اسی فطرت  
پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي

فِطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا - سُورَةُ رُومِ: ۳۰

”ہر طرف سے کٹ کر اپنے رُخ کو اس دین کی طرف سیدھا کر لو، جیسا کہ

اللہ کی (بنائی ہوئی) اس فطرت کی پیروی کرو۔ جس پر اس نے (تم) انسانوں کو پیدا کیا ہے۔“

یہ اس حقیقت کا واضح اعلان ہے کہ اسلام کی بنیاد جس شے پر رکھی گئی ہے وہ وہی فطرت ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم نے اپنے کو، یا یوں کہیے کہ اسلام کو، جا بجا ذکر، تذکرہ اور ذکر کی کہا ہے، جس کے لغوی معنی 'یاد دہانی' کے ہیں۔ قرآن یا اسلام کے 'یاد دہانی' ہونے کا مطلب یہ ہے، اور یہی ہو سکتا ہے، کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان پر کہیں

سے لاکر لاد دی گئی ہو، اور جس سے وہ یکسر اجنبی رہا ہو، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیادیں اس کے اندرون میں روزِ اول سے موجود ہیں، وہ اس کی

فطرت ہی کی خاموش آواز ہے، جسے الفاظ کے اندر منتقل کر کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اس خاموش آواز کو سن نہیں رہا تھا اور اپنے اندر کی

موجود اس حقیقت کو وہ بھلا چکا تھا، رحمتِ حق نے اس بھلائے ہوئے سبق کو اسے یاد دلایا۔

اسلام کی یہی وہ حیثیت ہے جس کے پیشِ نظر وہ اپنے انکار کو 'کفر' سے تعبیر کرتا ہے۔ کفر کے لغوی معنی ہیں 'چھپا دینا'۔ گویا اسلام کا انکار دراصل اپنی اس فطرت کو چھپا دینا اور اس کے رُخِ زیبا پر حق

ناپسندی کی سیاہ نقاب ڈال دینا ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ (اسلام)

فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ أَوْ يَنْصُرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ (بخاری)

کوئی بچہ نہیں جو فطرتِ اسلام پر نہ پیدا کیا گیا ہو، لیکن  
 اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی  
 یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔

یعنی فطرتِ انسانی کو ربط و مناسبت صرف اسلام سے ہے۔ ہر بچہ بڑا  
 ہونے پر اسلام ہی کو اختیار کرتا، اگرچہ اس سلسلہ میں باہر سے کوئی مداخلت نہ  
 ہوتی۔ لیکن یہ مداخلت بالعموم لازماً ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کے والدین  
 اس کے دل و دماغ پر پالنے ہی سے اپنے مذہب کی پالش چڑھانے لگتے ہیں۔  
 اس لیے بڑا ہوتے ہوتے وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا کسی اور قسم کا نام مسلم  
 بن کر رہ جاتا ہے۔ ورنہ اگر کسی بچے کے بارے میں یہ مداخلت نہ ہو، اس  
 کے ماحول کی غیر معمولی طاقت اسے کسی طرف کھینچ نہ لے جائے، اور اس کی اصل  
 فطرت کو اپنی پیدائشی حالت پر آزاد باقی رہنے دیا جائے، اور پھر اس کے سامنے  
 مختلف مذاہب کی تعلیمات ایک ساتھ پیش کی جائیں تو وہ ان تمام میں سے  
 صرف اسلام کو اپنائے گا، مذاہب کے اس مجموعے میں جب اس کی نظر اسلام  
 پر پڑے گی تو وہ اس کی طرف اس طرح جائے گا جس طرح ایک بچہ بہت سی  
 عورتوں کے درمیان صرف اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہو گا کہ ہر  
 دوسرا مذہب انسانی فطرت کی شامہ سارہ سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے جس  
 کسی کی فطرت کو والدین کی تعلیم و تربیت اور ماحول کے اثر سے ہاتھ نہ لگایا ہو وہ  
 ان مذاہب میں اپنے لیے کوئی کشش نہ پائے گا، بلکہ ان سے بیگانگی اور اجنبیت  
 محسوس کرے گا۔ البتہ اسلام کی طرف کھینچ آئے گا، کیونکہ اسے وہ اپنی فطرت کے

عین مطابق پاتے گا، اس سے گہرا اُنس اور اک جہان نواز ہم آہنگی محسوس کرے گا۔  
 گویا اس کی فطرت اگر خالص فولاد ہے تو اسلام اس کے لیے مصفیٰ مقناطیس ثابت  
 ہوگا۔

ان نصوص اور دلائل کی روشنی میں اس حقیقت پر کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کہ  
 اسلام فطرت کا ترجمان ہے اور اس کی بنیاد اسی فطرت پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ آنحضرت  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کی صراحت فرمادی ہے کہ وہ فطرت جس  
 پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا یہی دین ہے "فطرة الله التي  
 فطر الناس عليها دين الله تعالى۔ (روح المعانی، جزو ۲۱، صفحہ ۴۰)

### دین فطرت ہونے کا واضح تقاضا

اگر اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد ٹھیک انسانی فطرت پر قائم  
 ہے، اور اگر انسان کی فطرت میں صرف وہی قوتیں اور رجحانات پیدا کیے  
 گئے ہیں جن کا ان کے مقصد وجود نے زبانِ حال سے مطالبہ کیا تھا، تو ان دونوں  
 باتوں کا یہ لازمی اور بدیہی تقاضا ہوگا کہ اسلام انسان کی کسی بھی فطری قوت یا  
 رجحان کے کچل ڈالنے کا روادار نہ ہو، کسی کو اپنی راہ کا روڑا نہ سمجھے، کسی کے جائز  
 تقاضوں کو نہ ٹھکراتے اور کسی سے خدمت لینے میں کوتاہی نہ کرے۔ کیونکہ  
 اس کے لیے ایسا کرنا اگر صحیح ہو سکتا ہے تو صرف اسی وقت جب کہ اُسے  
 تین باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور تسلیم ہو۔ یا تو یہ بات کہ اس کی  
 بنیاد ٹھیک انسانی فطرت پر نہیں ہے، یا یہ بات کہ انسانی فطرت  
 میں اس کے خالق نے کچھ ایسی چیزیں بھی پیدا کر رکھی ہیں جو انسان کے مقصد وجود

کے لیے یکسر غیر ضروری بلکہ ضرر رساں ہیں۔ یا پھر یہ بات کہ وہ انسان کو اوائے فرض اور سچی کامیابی کی صراطِ مستقیم دکھلانے آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ان میں سے کسی بات کے بھی تسلیم کرنے پر تیار نہیں، بلکہ انہیں دنیا کی سب سے زیادہ غلط اور جھوٹی باتیں قرار دیتا ہے تو ایسی حالت میں عقل یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ پھر تو اسلام کا رویہ ایک ایک قوت و رجحانِ فطرت کے بارے میں لازماً مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ ان سب کا وہ احترام کرے، ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کرے، انسانی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول میں انہیں گامِ راہد سمجھے، اور ان سے کام لینے کی ہدایت کرے۔

ان میں سے جس شخص کی بھی نگاہِ اسلامی تعلیمات پر سطحی نہ ہوگی وہ شہادت دے گا کہ اسلام کا رویہ، عقل کے اس فیصلے سے ذرا بھی مختلف نہیں۔ وہ انسان کی ساری فطری قوتوں اور رجحانات کو بالیقین یہی حیثیت دیتا ہے، انہیں ہر لحاظ و احترام کا مستحق ٹھہراتا ہے، ان کے تقاضے پورے کرنے کی ہدایتیں دیتا اور اس کے لیے راہیں متعین کرتا ہے، اور اس بات کی شدت سے مخالفت کرتا ہے کہ انہیں معیوب سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ پھر اس کا یہ رویہ اور یہ طرزِ فکر ان قوتوں اور رجحانوں کے ساتھ کسی رعایت کی خاطر اور کسی منفی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہ محض اس وجہ سے ان کی پذیرائی نہیں کرتا کہ جب انسان یہ علتیں، ساتھ لے کر پیدا ہوا ہے تو کچھ ان کی بھی مان لی جائے۔ بلکہ ٹھیک اپنے تصورِ دین کے تحت ایسا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ قوتیں اور یہ رجحانات ایسے ذرائع ہیں جن سے ٹھیک کام لے کر ہی انسان اپنے مقصدِ وجود کو حُسن و خوبی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ اور

اسی لیے وہ ان کے مطالبات کی صحیح سجاوڑی کو دنیا کا نہیں، بلکہ دین کا کام اور عبادت کا فعل قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر کھانے پینے کی حیوانی آرام و سکون کی، بقائے نسل کی، بیوی بچوں کی پرورش و نگہداشت کی، احباب کی خاطر مدارات کی فطری خواہشیں موجود ہیں۔ اسی طرح وہ غصہ، نفرت، ستمی، جنگ، شہوت، گویائی، احساسِ مسرت اور احساسِ غم کی قوتیں لے کر پیدا ہوا ہے۔ بظاہر دیکھیے تو یہ ساری چیزیں دین اور دینداری کے ذوق سے کوئی میل نہیں کھاتیں، بلکہ ان میں سے بیشتر تو ایسی ہیں جو اس کی عین منہا ہی جائیں گی۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ — نہیں، یہ سب انسانی فطرت کے جوہر ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی بے قیمت یا بلا ضرورت نہیں۔ انسان پر جس طرح اس کے خالق اور پروردگار کے حقوق ہیں، اسی طرح اس کے اپنے نفس کے، اپنے جسم کے، اپنی آنکھوں کے، اپنے اہل و عیال کے، اور اپنے احباب کے بھی حقوق ہیں، اور ضروری ہے کہ ان سارے حقوق کو ادا کیا جائے،

إِنَّا لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ

لِلذُّوْبِكَ حَقًّا وَإِنَّ لِلذُّوْرِكَ حَقًّا۔

”میرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور

تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔“

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ

لِلنَّفْسِ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِلذُّوْبِ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِلذُّوْرِ عَلَيْكَ حَقًّا۔



لَا هَلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

”تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے نفس کا بھی تجھ پر

حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے“

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

لَا هَلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

”تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق

ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، پس ہر حق دار کو اس

کا حق دے“

حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی کارِ ثواب

ہے۔

إِبْدَاءُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا

”اپنے نفس سے شروع کر اور اس پر صدقہ کر“

مَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةَ

تَرْفَعُهَا فِي فِي أَمْرَاتِكَ

۱۔ بخاری کتاب الصوم

۲۔ بخاری کتاب الصوم

۳۔ مسلم، کتاب الزکوٰۃ

۴۔ بخاری، کتاب النفقات

”جو بھی تو نے خرچ کیا وہ صدقہ میں شمار ہو گا حتیٰ کہ جو تیر سی

بیوی نے کھایا وہ بھی صدقہ میں شمار ہو گا۔“

جو شخص جوشِ ریاضت میں اگر مسلسل روزے رکھتا ہے گا وہ ایسا غلط کار  
ٹھیرے گا گویا اس نے روزے رکھے ہی نہیں۔

لَا صِيَامَ مَنْ صَامَ الْآجِدَّ

نکاح کرنا ہی دین کا تقاضا ہے اور اس سے اعراض کرنے والا رسولِ خدا  
صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کا مستحق نہیں۔

أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ تَرَيْتَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

انسان میں اولاد کی طلب ہونا چاہیے۔

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ

مثالی مومنوں، یعنی انبیاء علیہم السلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ صاحبِ

اہل و عیال تھے۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

۱۔ بخاری کتاب الصوم۔

۲۔ بخاری کتاب النکاح۔

۳۔ سورۃ بقرہ، ۱۸۷۔

۴۔ ابوداؤد، کتاب النکاح۔

۵۔ سورۃ الرعد، ۳۸۔

مومن کے لیے ازواجی وظیفے کی ادائیگی میں بھی اجر و ثواب ہے۔

فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ مَدَّتْ لِي

حق اور دین کے معاملے میں اپنے موقع پر، بغض اور نفرت کمال ایمان

کی ضروری علامت ہے۔

مَنْ آذَى اللَّهَ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ

لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

”اگر دین کی حفاظت اور حمایت کا تقاضا ہو تو اس کی خاطر

جنگ بہترین نیکی ہے۔“

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَى النَّاسَ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

”اور اس قسم کی جنگ کے جذبے سے اگر کوئی سینہ خالی ہے

تو وہ ایک سچے مسلمان کا سینہ نہیں ہو سکتا۔“

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوكُمْ يُحَدِّثُ بِهٖ نَفْسَهُ مَاتَ

۱۔ مسلم، کتاب الزکوٰۃ

۲۔ مشکوٰۃ، صفحہ ۱۴، بحوالہ ابوداؤد

۳۔ بخاری، کتاب الجہاد۔

عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ۚ

”کفر اور نفاق کے معاملے میں نرمی کا نہیں، بلکہ سختی کا رویہ ایمان کی جان ہے“

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى  
الْكُفَّارِ ۚ

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ اس کے

ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل اور نرم ہیں“

توت گویائی کو معطل کیے رہنا اسلام کا نہیں، جاہلیت کا کام ہے۔

إِنَّ هَذَا لَا يَجْعَلُ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ۚ

اپنے بچوں کو پیار کرنا ایک پسندیدہ عادت اور دینی ذوق کی بات ہے

اور اپنے کو اس سے ”بلند“ رکھنا سخت ناپسندیدہ رویہ ہے۔

قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ

بْنِ عَلِيٍّ ..... فَقَالَ مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ۚ

اپنے کسی عزیز کی موت پر غمگین ہونا اور اُسو پہانا کوئی غیر مستحسن فعل نہیں

۱۔ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ نہ اُس نے جہاد کیا اور نہ جہاد کا خیال ہی اس کے

دل میں پیدا ہوا، وہ نفاق پر مرا۔ (مسلم جلد ۲)

۲۔ سورۃ فتح، ۲۹۔

۳۔ بخاری، جلد دوم

۴۔ بخاری کتاب الآداب۔

بلکہ انسانیت و رحم دلی کا مظاہرہ ہے۔

..... هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ

یہ ساری شہادتیں اس بات کو قطعی طور پر ایک روشن اور ناقابل انکار حقیقت ثابت کر دیتی ہیں کہ اسلام فطری قوتوں اور میلانوں کو معیوب قرار نہیں دیتا، بلکہ معیوب اس بات کو قرار دیتا ہے کہ انہیں اچھی نظروں سے نہ دیکھا جائے، انہیں ٹھکرایا جائے، اور ان کے حرکت میں آنے کو دین داری کے خلاف سمجھا جائے۔ وہ اسی خالق حکیم کی طرف سے آیا ہوا دین ہے جس نے انسان کو اور اس کی ساری فطری قوتوں کو خلق کیا ہے۔ اس لیے اس کے لیے یہ کسی طرح ممکن تھا ہی نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک قوت کو بھی بے کار اور فضول قرار دیتا۔ دین اللہ اور دین فطرت ہونے کی حیثیت سے بنیادی طور پر اس کا تو مقصد وجود ہی یہ ہونا چاہیے کہ انسان کی فطری قوتوں اور رجحانوں سے کام لینے میں اس کی رہنمائی کرے، اسے ان کے غلط استعمال سے روکے اور صحیح استعمال کے طریقے بتائے، نہ صرف طریقے بتاتے بلکہ اس کی تلقین بھی کرے۔ اور صحیح پوچھے تو وہی وہ سب سے بڑی مخصوص صفت ہے جو دین اللہ کو دوسرے دینوں سے اور اسلام کو غیر اسلام سے ممتاز کرتی ہے۔

جب اسلام، دین فطرت ہونے کے باعث، انسان کے ایک ایک فطری رجحان کو توجہ کے لائق ٹھہراتا ہے، اسے اجازت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے

۱۔ مسلم، کتاب الجنائز۔

وجود کے پیچھے کسی نہ کسی مصلحت اور ضرورت کی کار فرمائی تسلیم کرتا ہے، اور اس بنا پر اس کے صحیح تقاضوں کی تکمیل کو اپنی تعلیمات میں لازماً جگہ دیتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک اجتماعیت پسندی ہی کے رجحان کو، جو بجائے خود انسانی فطرت کا بڑا ہی نمایاں اور قوی رجحان ہے، اس نے مذموم و مردود قرار دے دیا ہو یا اسے نظر انداز کر دیا ہو۔ یہ بات کسی طرح قیاس میں آنے والی نہیں۔ اس کے برعکس، قیاس کا کہنا تو صرف یہ ہے کہ اس نے انسان کے اس فطری رجحان کو بھی، اس کے مقصد و وجود کے بارے میں، یقیناً ایک ضرورت کی چیز سمجھا ہوگا، اور اپنی تعلیمات کے اندر اس کے تقاضوں کو بھی وہی جگہ دی ہوگی جس کے وہ مستحق ہیں، نیز ایسے شخص کو اپنا ایک غلط کارپیر و ٹھیرایا ہوگا جو "مسلم" ہوتے ہوئے بھی اس کی اس طرح کی تعلیمات کو مناسب اہمیت نہ دے اور ان کا پورا پورا حق ادا کرنے سے کتراتے۔ اور اگر امر واقعی یہ نہیں ہے، اگر اس نے اجتماعیت کے بارے میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا ہے تو کوئی شک نہیں کہ عقل و انصاف کی عدالت اس پر بے اصولی اور تضاد پسندی کا شدید الزام لگائے گی، اور اس الزام کی صفائی میں اس کے لیے کچھ کہنا آسان نہ ہوگا۔

آئیے دیکھیں، اپنے دین فطرت ہونے کے اس واضح اصولی مطالبے کو اسلام نے کس حد تک تسلیم کیا ہے؟ اور اجتماعیت کو اس کے یہاں فی الواقع کیا مقام ملا ہوا ہے؟

اجتماعیت کی تسلیم شدہ دینی اہمیت

کتاب و سنت پر جارتے کی ایک اچھلتی نظر بھی اس بات کا یقین دلا سکتی

ہے کہ اسلامی نظام فکر و عمل سے اجتماعیت کو بے دخل نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ اس کی اہمیت کا صاف صاف اعتراف کیا گیا اور اس کے تقاضوں کو واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اگر جائزے کی نظر کو گہرائی میں اتر کر کام کرنے کا موقع دیا جائے تو اس یقین کی وسعت کہیں سے کہیں جا پہنچے گی۔ دکھائی دے گا کہ اس نظام میں اجتماعیت کو وہ اہمیت حاصل ہے جو حیرت انگیز حد تک غیر معمولی ہے جو شاید اپنی نظر آپ ہی ہے۔ کوئی پہلو نہیں جو اس اہمیت کی توضیح و تعلقین کے لیے اختیار کیا جاسکتا ہو اور یہاں اسے اختیار نہ کیا گیا ہو، کوئی موقع نہیں جہاں اجتماعی طرز عمل اپنانے کی گنجائش نکل سکتی ہو اور اسلام نے اس کی تاکید نہ کر رکھی ہو۔

اس دعوے کی دلیل اور اس اجمال کی تفصیل ہمیں جن چیزوں سے ملے گی

وہ یہ ہیں:

۱۔ اسلام کا عمرانی تصور، یعنی انسان کا وہ موقف جسے اس کا حقیقی عمرانی موقف تسلیم کر کے اسلام نے اسے خطاب کیا ہے۔

۲۔ وہ احکام شریعت جو اہل اسلام کی جماعتی تنظیم اور ملی وحدت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔

۳۔ وہ دینی ہدایات جن میں زندگی کے عام امور و معاملات کو بھی کسی نہ کسی طرح کے اجتماعی نظم کے ساتھ انجام دینے کی تلقین کی گئی ہے۔

۴۔ اجتماعیت کے وہ آداب جو فرض عبادتوں کے ضمن میں لازم ٹھہرائے گئے ہیں۔ آئیے، ایک ایک چیز کو لے کر اس کا تفصیلی مطالعہ کریں۔

## ۱۱) عمرانی تصور کی زبان سے

کوئی بھی مذہب اپنے پیروؤں کو جب خطاب کرتا ہے تو اپنے ذہن میں انسان کی اصل حیثیت کا کوئی نہ کوئی تعین ضرور رکھتا ہے، اور اسے کسی متعین موقف پر رکھ کر ہی اپنی تعلیمات کا آغاز کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے گریز نہ ممکن ہے نہ صیح۔ کیونکہ یہ چیز بھی انہی چند چیزوں میں سے ایک ہے جو مذہب کے اندازِ خطاب کی، ان کے احکام و ہدایات کی، اور ان کی قدروں کی تعین اور حد بندی کرتی ہیں، اور جن کا لحاظ اگر نہ رکھا جائے تو ان کی تعلیمات کے اندر نہ کوئی توازن پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی معقولیت پائی جاسکتی ہے۔

جن امور میں انسان کی اصل حیثیت اور اس کے قدرتی و حقیقی موقف کا تعین ضروری ہوتا ہے، ان میں سے ایک عمرانیت بھی ہے۔ ہر مذہب کو یہ پہلے دن طے کر لینا پڑتا ہے کہ آیا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنی دنیا آپ بسانی اور تنہائی کی زندگی بسر کرنی ہے، یا اسے اپنے دوسرے ہم جنسوں کے ساتھ اور ان کے اندر رہنا سہنا ہے؟ اور اگر دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا سہنا ہے تو اس میل جول کا دائرہ کتنا محدود یا کتنا وسیع، اور اس ربط کا رشتہ کتنا مضبوط ہے؟ قدرتاً اسلام نے بھی ان سوالوں کا ایک جواب متعین کر کے ہی انسان کو خطاب کیا ہے، اور اس معاملہ میں بھی اسے ایک خاص مقام پر رکھ کر ہی اس نے اپنی تعلیمات وضع کی ہیں۔ یہ جواب کیا ہے؟ اور اسلام کے نزدیک عمرانی پہلو سے انسان کا حقیقی موقف کیا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ایک طرف تو اس کا یہ ارشاد دیکھئے:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ۗ - الخ (الحجرات: ۱۳)

”لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے

پیدا کیا ہے، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے ہیں۔“ الخ

دوسری طرف اس کا یہ عمل دیکھیے کہ اس کی شریعت پر اجتماعیت کی

انتہائی گہری چھاپ پڑی ہوئی ہے، اس کے احکام و ہدایات کا ایک خاصا

بڑا حصہ انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے وقف ہے اور اس کی پیروی بھی

اس نے اسی طرح لازمی قرار دی ہے جس طرح باقی دوسرے احکام کی، وہ جہاں

حقوق اللہ سے بحث کرتا ہے وہیں حقوق العباد کو بھی پوری اہمیت سے

لیتا ہے، وہ صرف پرستش کا طریقہ بتا کر خاموش نہیں ہو جاتا بلکہ اجتماعی زندگی

بسر کرنے کے لیے ایک پورا نظام اطاعت بھی دیتا ہے، منزلی اور عائلی،

شہری اور ملکی، اخلاقی اور معاشرتی، تمدنی اور معاشی، سیاسی اور بین الاقوامی

غرض حیاتِ انسانی کا کوئی شعبہ نہیں جس کے سلسلے میں اس کے احکام موجود نہ

ہوں، اور زندگی کی کوئی گزرگاہ نہیں جہاں اس کے ہدایت نامے آویزاں

نہ ہوں۔

یہ دونوں امور — اسلام کا یہ صریح ارشاد اور اس کا یہ واضح عمل —

جس امر واقعی کا انکشاف کرتے ہیں وہ کسی بحث و استدلال یا کسی وضاحت

سے یکسر بے نیاز ہے۔ یہ دونوں بجائے خود اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہیں کہ

اسلام نے انسان کو خطاب کرتے وقت ایک ایسے مقام پر رکھا ہے جسے

اجتماعیت کا اونچا مقام کہا جائے گا، اس کی تعلیمات کے پس منظر میں انسان کا جو موقف ایک مسلمہ حقیقی موقف کی حیثیت سے موجود ہے وہ قطعی طور پر ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے والی مخلوق کا موقف ہے۔ وہ انسانی افراد کا اس کے سوا اور کوئی تصور رکھتا ہی نہیں کہ یہ ایک قبیلے، ایک قوم، اور ایک معاشرے کے اجزائے ترکیبی ہیں اور اپنے اسی "گلی" کے اجزا ہیں کہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ گھربار، کھیت اور بازار، علمی ادارے اور تحقیقاتی مراکز، اسمبلی اور پارلیمنٹ، میدان جنگ اور ایوانِ صلح، ہر جگہ کی دل بستگیاں اور ضرورتیں رکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی انہیں خطاب کرنا ہو ضروری ہے کہ ان کے اس مسلمہ اور حقیقی موقف کو سامنے رکھ کر خطاب کیا جائے۔

اگر اسلام انسان کو خطاب کرتے وقت اپنے ذہن میں اس کا عمرانی تصور یہ رکھتا ہے تو یہ اس بات کا بدیہی ثبوت ہے کہ وہ اپنے پیروؤں کے لیے اجتماعیت کو ایک امر لازم سمجھتا ہے، اور اس حد تک لازم سمجھتا ہے کہ اگر انسان کو اس کی اس حیثیت سے الگ کر دیا جائے تو پھر اس زمین پر اس کا کوئی صحیح مخاطب ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

(۲) تنظیمی احکام کی زبان سے

کوئی شک نہیں کہ اسلام نے فرد کو بڑی اور بنیادی اہمیت دی ہے۔ فرد ہی اس کا ابتدائی اور حقیقی مخاطب ہے۔ جس طرح وہ تنہا پیدا ہوا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام و وصیایات پر عمل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا بھی اسی کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے، اور کل اس کے حضور اپنے عمل کی

جواب دہی کے لیے اسے اکیلے ہی حاضر بھی ہونا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ راستہ جو انسان کو کامیابی کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اجتماع سے کتر کر نہیں جاتا، بلکہ ایک منظم اجتماعی زندگی کے ٹھیک منبجہا سے ہو کر گزرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس راستے کی تعین کرتے ہوئے اس کے ضروری مراحل کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... وَاعْتَصِمُوا  
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ (آل عمران: ۱۰۲-۱۰۳)

”ایسے ایمان والو..... اور تم سب کے سب اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ رہو۔“  
”الگ الگ نہ رہو“ یعنی باہم جڑے ہوئے رہو۔ یہ ”الگ الگ نہ رہنا“ اور باہم جڑا رہنا، کس طرح کا اور کس معیار کا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف رجوع کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَيَاكُمْ وَالْفُرْقَةَ۔

(ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۴۱)

”جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور انشائے

پوری طرح الگ نہ رہو۔“

أَمْرُكُمْ بِخَيْرٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

وَالهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (احمد و ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ صفحہ ۳۲)

”میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں: جماعتی زندگی کا، سمع

(یعنی احکام امیر کے سننے) کا، طاعت (یعنی احکام کے ماننے) کا،

ہجرت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔“

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس جماعتی زندگی کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ

کوئی ڈھیلی ڈھالی جماعتی زندگی نہیں ہے جس کی شیرازہ بندی صرف اخلاقی رشتوں

سے ہوتی ہو، بلکہ ایسی متحد، منظم اور منضبط جماعتی زندگی ہے جس کی سمع اور

طاعت کے آہنی تاروں سے بھی پوری طرح کس دیا گیا ہو۔

پھر یہی نہیں کہ جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور جماعتی

زندگی بسر کرنے کا یہ ایک لازمی حکم ہے، بلکہ یہ ایسا لازمی حکم ہے جس کی خلاف ورزی

میں نہ ایمان کی خیر ہے نہ اسلام سے رشتہ برقرار رہ سکتا ہے۔ چنانچہ مزید ارشاد

ہوتا ہے کہ:

إِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدًا شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ

رِبْمَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ۔ (امداد ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ: ۳۷۱) ختم

”جو شخص الجماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہو رہا، کوئی

شک نہیں کہ اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال پھینکا۔“

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ

مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔ (مسلم جلد ۲، صفحہ ۱۲۷)

”جو کوئی امام المسلمین کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار کرے گا

اور جماعت المسلمین سے الگ ہو رہے گا اور اسی حال میں مر جائیگا

اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔“

جس طرح مسلمانوں کی الجماعۃ سے اپنا جُڑا ہوا رشتہ کاٹ لینا ایمان کے منافی ہے اسی طرح اس نظم اجتماعی سے وابستہ نہ ہونا بھی دینی حیثیت سے انتہائی خطرناک حالت ہے؛

مَنْ مَاتَ وَكَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً

بِجَاهِلِيَّةٍ۔ (مسلم جلد ۲ - صفحہ ۱۲۸)

جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی گردن میں (امام المسلمین کی بیعت (کا قلاوہ) نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔“

جس الجماعۃ کی حیثیت یہ ہو اور جس نظم اجتماعی سے علیحدگی یا بے تعلقی ایک مسلمان کو جاہلیت کی حالت میں پہنچا دیتی ہو، کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اندر رخنہ ڈالنے کی کسی جسارت کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کر لیا جائے چنانچہ اس بارے میں آپ کی ہدایت یہ ہے کہ:

مَنْ آذَانَ أَنْ يَمُوتَ أَمْرَهُدِ الْجَمَاعَةِ وَهِيَ

جَمِيْعٌ فَاحْبِرْ بُوْكَ بِالسَّيْفِ كَأَنَّكَ مَيِّتٌ كَانُ -

(مسلم جلد ۲ - صفحہ ۱۲۸)

”جو شخص اس جماعت کو، جب کہ وہ متحد ہو، پر اگندہ کرنا

چاہے، اسے سب سے آخر (تلوار پر رکھ لو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔“

دوسری طرف قدرتی طور پر، ان لوگوں کا اجر اور مرتبہ قابل رشک خدنگ عظیم

قرار دیا گیا ہے جو اس نظم اجتماعی کی عملی شکل \_\_\_\_\_ اسلامی مملکت  
 کی حفاظت اور سالمیت کے لیے جان بازی دکھائیں۔ فرمایا گیا  
 ہے کہ:

”ایک شب و روز کی سرحدوں کی حفاظت ایک مہینے کے مسلسل  
 روزوں اور نمازوں سے بھی افضل ہے۔ اور اگر اسی دوران میں کسی  
 کی وفات ہو جائے تو اس کا وہ عمل نیک، جسے وہ اپنی زندگی میں انجام  
 دیا کرتا تھا، برابر انجام پاتا ہوا شمار کیا جائے گا، اور اسے اس کا رزق  
 ملتا رہے گا، نیز وہ فتنے میں ڈالنے والوں سے مامون رہے گا۔“

(مسلم جلد دوم، صفحہ ۱۴۲)

”دو آنکھوں کو دو درخ کی آگ نہ چھو سکے گی :- ایک وہ جو  
 خوفِ خدا سے روپڑی ہو، دوسری وہ جس نے رضائے الہی کی خاطر  
 سرحدوں کی نگرانی کرتے ہوئے رات گزار دی ہو۔“

(ترمذی، جلد اول - صفحہ ۲۱۰)

اسی طرح اس نظم کی اطاعت کو ایمان کی ایک ضروری علامت بتایا  
 گیا ہے، اور اصحابِ امر کی فرماں برداری کو اللہ و رسول کی فرماں برداری قرار دیا  
 گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

مَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يُعْصِيَ الْأَمِيرَ

فَقَدْ عَصَانِي - (مسلم جلد ۲ - ص ۱۲۴)

”جس نے امیر کی فرماں برداری کی اس نے میری فرماں برداری کی،

اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

اطاعتِ امیر کے اس فریضے کو امکان کی آخری حد تک انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اُن اُمراء کی بھی بیعت اور اطاعت سے کنارہ کشی کی اجازت نہیں ہے جو بُرائیوں میں لُت پُت ہو رہے ہوں، اور جن کے ہاتھوں رعایا کی پٹھیں زخموں سے چور چور ہو جاتی ہوں۔ حالانکہ یہ وہ حرکتیں ہیں جو اسلام کی نگاہ میں انتہائی مذنبِ مبعوض ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پیروں سے کہتا ہے کہ میرے ان مظالم کو برداشت کیے جاؤ اور ان کی امارت کو چیلنج نہ کرو، بلکہ معروف میں ان کی برابر اطاعت کرتے رہو۔ اس معاملے میں ایسی غیر معمولی چشم پوشی کی پالیسی اس نے کیوں اختیار کی ہے؟ اور ظالم و فاسق اُمراء کے بارے میں ایسے انتہائی صبر و انقیاد کا اس نے مسلمانوں کو حکم کیوں دیا ہے؟ محض اس لیے تاکہ ملت کی اجتماعیت محفوظ رہے اور مسلمانوں کا اتحاد، انتشار کی نذر نہ ہونے پائے۔

امام نووی اس طرح کی حدیثوں پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

هذه الاحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع

الاحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فان الخلاف

سبب لفساد احوالهم في دينهم ودنياهم۔

(شرح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۱۲۲)

یہ حدیثیں اس امر کی تاکید کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ

اولوالامر کے احکام بہر حال میں مٹنے اور ماننے جائیں، اور ان کا مقصد

یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد برقرار رہے، کیونکہ اختلاف ان کے لیے

دینی اور دنیوی دونوں قسم کی خرابی احوال کا موجب ہے۔“

یہ ان احکام کا ایک عمل خلاصہ ہے جو اجتماعی نظم اور ملی اتحاد کے بالے میں اسلام نے اپنے پیروؤں کو دے رکھے ہیں۔ اگر صرف انہی چند ارشادات کو غور سے دیکھ لیا جائے تو اجتماعیت کی وہ قدر و قیمت، جو اسے اسلام میں حاصل ہے، بڑی حد تک بے حجاب نظر آجائے گی۔ کتاب و سنت کی رو سے اگر تمام اہل ایمان کا ایک خاص شیرازے (مَجْلِسُ اللَّهِ) میں بندھا رہنا اور تفرق سے دور رہنا ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں پر نظامِ خلافت کا قائم کرنا واجب ہے، اگر امام المسلمین کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اگر جماعہ المسلمین سے ہاشت بھر کی علیحدگی بھی مومن کی گردن کو اسلام کے حلقے سے محروم کر دیتی ہے، اگر امام کی بیعت سے بے نیاز مر جانا جاہلیت کی موت مرنا ہے، اگر الجماعہ کے اتحاد میں رخنے ڈالنے والے کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر ملت کے اجتماعی نظام و اسلامی مملکت کی حفاظت سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔

تو سوچیے وہ کون سا مقام ہے جو اجتماعیت کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اسلام میں اُسے ملا نہیں ہے۔

—————

(۳) عام اجتماعی ہدایات کی زبان سے

”اجتماعیت“ اور ”اجتماعی نظامِ زندگی“ کے الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو

لے نصیبِ خلافت کے واجب ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ اس مسئلے پر مفصل گفتگو ایک مستقل عنوان کے تحت آگے آتی ہے۔



عام طور سے ان کا اونچے سے اونچا اور وسیع سے وسیع مفہوم بھی ایک باضابطہ نظام حکومت کے قیام سے زیادہ نہیں ہوتا۔ گویا عام معاشروں کی حد تک یہی اجتماعیت کا معیار مطلوب اور منتہا ہے کمال سمجھا جاتا ہے، اور حکومت کے دائرہ عمل و اثر سے باہر کی باقی پوری زندگی اجتماعیت کی بحث سے یکسر آزاد اور بے تعلق خیال کی جاتی ہے۔

لیکن اسلام اس عام نقطہ نظر سے اتفاق نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور اپنے پیروؤں کو، حکومتی دائرہ عمل و اثر سے باہر کی زندگی بھی، کسی نہ کسی طرح کے اجتماعی نظم کے ساتھ ہی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے جو ہدایات دی ہیں ان کا ایک ترتیب سے مطالعہ کیجیے۔

را، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَجِلُّ يَثَلَاثَةَ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ

إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ذَمَّتْهُ، مَفْحَمٌ ۳۳۰

”ایسے تین آدمیوں کے لیے، جو کسی بیابان میں ہوں، جائز

صرف یہ بات ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا کر رہیں“

یہ ارشاد نبوی کہتا ہے کہ اگر تین مسلمان بھی جگہ ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ کسی

انگ تھلک مقام پر اور سنسان بیابان ہی میں کیوں نہ آباد ہوں، تو بھی ضروری

ہے کہ ان میں سے ایک ان کا امیر ہو اور باقی دو اس کے مامور و ماتحت ہوں۔

اس اجتماعیت اور تنظیم کے، بلکہ یوں کہیے کہ اس نئے سے ریاستی نظم

کے بغیر ان کی زندگی اسلامی زندگی نہ ہوگی۔  
 (۲) حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

(ابوداؤد، جلد ۱، صفحہ ۳۵۱)

”جب تم میں سے تین آدمی (بھی) سفر کے لیے نکلیں تو

چاہیے کہ ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔“

یعنی مسلمان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ مدتِ سفر جیسا عارضی وقت بھی نظم و امر کے بغیر نہ گزارے۔ اگر تین اشخاص بھی ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں

تو مزاجِ اسلامی کے سراسر خلاف ہوگا اگر انہوں نے اپنے میں سے ایک کو

اپنا امیر سفر نہ بنا لیا ہو، اور اس کی سرکردگی میں وہ یہ سفر نہ کر رہے ہوں۔

(۳) حضرت ابو ثعلبہ نخعیؓ کہتے ہیں کہ لوگوں کی عادت تھی کہ سفر کے

دوران جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو اُدھر اُدھر پھیل جاتے اور اپنی اپنی پسند کی

مختلف جگہیں ٹھہرنے کے لیے منتخب کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار

یہ صورتِ حال دیکھی تو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّكُمْ تَفَرَّقُكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ

إِنَّمَا ذَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔

(ابوداؤد، جلد اول، صفحہ ۳۵۳)

”تمہارا اس طرح مختلف گھاٹیوں اور میدانوں میں منتشر رہنا

صرف شیطان کی وجہ سے ہے۔

اس تشبیہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ:

لوگ پھر کبھی اس طرح منتشر نہ ہوتے، اور جب کسی جگہ

پٹاؤ ڈالتے تو ایک دوسرے سے بالکل لگ کر ٹھیرتے، حتیٰ کہ

خیال ہوتا اگر انہیں ڈھکا جائے تو ایک ہی کپڑے کے نیچے سب

آجائیں گے۔ (ابوداؤد، جلد اول، صفحہ ۳۵۴)

معلوم ہوا کہ بغیر کسی جماعتی نظم کے پورا سفر کر ڈالنا تو درکنار، اس کے دوران

چند گھنٹوں کا کوئی پٹاؤ بھی اگر اپنے اپنے طور پر کر لیا جائے تو اتنی سی دیر کی

بھی زندگی شان اجتماعیت سے آراستہ دکھائی نہ دے سکے، تو یہ بات بھی اسلام

کو قطعی گوارا نہیں، اور اسے وہ شیطان کی پیروی قرار دیتا ہے۔

(۴) ایک صحابی کسی گھاٹی سے گزر رہے تھے۔ وہاں انہیں میٹھے پانی کا

ایک چشمہ نظر آیا، جس نے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ دل نے کہا کاش میں

آبادی چھوڑ کر یہیں آبتنا اس خواہش کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے

اور اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا:

”نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں تمہارا کھڑا ہونا گھر

کے اندر پڑھی جاتے والی تمہاری ستر برس کی نمازوں سے بھی

افضل ہے۔“

لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ

مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا - (ترمذی جلد اول)

یہ حدیث اس حقیقت کی عکاس ہے کہ اجتماعی زندگی کو چھوڑ کر تنہائی کی زندگی گزارنے میں چاہے جو بھی دینی اور دنیوی فوائد نظر آتے ہوں لیکن اسلام اپنے پیروؤں کو ادھر جانے اور اجتماع سے کٹ کر رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں کہ یہ دینی اور دنیوی فوائد خواہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں مگر ان فائدوں کے مقابلے میں بالکل یسج ہیں جو ایک منظم اسلامی معاشرے کے اندر ایک مسلمان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔

غور کیجئے، سفر اور حضر سے متعلق یہ مختلف دینی ہدایتیں اسلامی نظام فکر و عمل میں اجتماعیت کی ضرورت و اہمیت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں! یہ یقیناً ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کرتی ہیں جس کو صرف اسلام ہی کے اندر موجود پایا جاسکتا ہے، اور جس سے دنیا کا ہر دوسرا معاشرہ اور نظام نا آشنا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اسلامی زندگی کے اجتماعی تقاضے صرف احکام خلافت کی بجا آوری پر جا کر ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس دائرے سے باہر کی عام زندگی کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے نزدیک اجتماعیت کی اہمیت انتہائی بلند ہی نہیں، انتہائی وسیع اور ہمہ گیر بھی ہے، حتیٰ کہ انسان کے عام رہن سہن کا کوئی گوشہ بھی اس کی حدود اثر سے آزاد نہیں۔

علامہ شوکانیؒ ان حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جہاں کہیں بھی تین یا تین سے زائد مسلمان ہوں ان کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا امیر منتخب کر لیں۔ کیونکہ اسی طرح باہمی

اختلاف سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔۔۔ اور اگر ان تین افراد کے لیے بھی، جو کسی جنگل میں ہوں یا ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں، حکم شریعت یہ ہے تو اس بڑی تعداد کے مسلمانوں کے لیے جو کسی گاؤں یا شہر میں ایک ساتھ رہتے ہوں یہ بدرجہ اولیٰ مشروع ہوگا۔

رنیل الاوطار، جلد ۹، صفحہ ۱۵۷

۴۴) عبادتوں کے اجتماعی آداب کی زبان سے

انسانی زندگی کا وہ شعبہ، جسے عرف عام کے لحاظ سے عبادتی شعبہ کہنا چاہیے، ایک ایسا شعبہ ہے جہاں اجتماعیت کی رسائی کا تصور بھی مشکل سے کیا جاسکتا ہے۔ عبادت الہی کا نام لیجیے، ذہن آپ سے آپ گوشوں اور نہایتوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ خیال ہونے لگتا ہے کہ عبادت خالصتہ دین کا اور آخرت کا کام ہے کسی پہلو سے بھی دنیا کا کام نہیں۔ پھر اسے کسی طرح بھی سامان جلوت کیسے بنایا جاسکتا ہے! گھر کی، محلے کی، بستی کی، پورے ملک کی زندگیاں اجتماعی نظم کی محتاج ضرور کہی جاسکتی ہیں، مگر خدا کو یاد کرنے کے لیے بھی کسی اجتماعیت کی ضرورت محسوس کی جائے، یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں۔ یاد الہی اور عبادت کی توفطرت ہی گرد و پیش سے بے تعلق چاہتی ہے۔ غرض عبادت گاہیں اور ریاضت کدے وہ مقامات ہیں جہاں ماسوا کا تصور بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔۔۔ اب اگر کوئی دین، عبادات کے اندر کچھ اجتماعی آداب کو لازم ٹھیراتا ہے تو کہنا چاہیے کہ اس نے اجتماعیت کو اہمیت دینے میں سب سے آخری قدم اٹھا دیا ہے۔ ایسی حالت میں

اس امر کا اندازہ لگانے کے لیے کہ اس دین میں اجتماعیت کو کس درجہ کی اہمیت ملی ہوتی ہے، اُن آداب اجتماعی سے زیادہ فیصلہ کن اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی جنہیں اس نے اپنی عبادتوں میں ملحوظ رکھنے کا حکم دے رکھا ہو، یہ آداب شمار میں جتنے ہی زیادہ ہوں گے، اور انہیں جتنا ہی زیادہ ضروری ٹھہرایا گیا ہوگا، کوئی شک نہیں کہ اس دین میں اجتماعیت کا حاصل شدہ مقام اتنا ہی اونچا قرار پائے گا۔

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، بالیقین وہ ایک ایسا ہی دین ہے جس کی عبادتوں میں اجتماعی آداب سموتے ہوئے ہیں۔ کس حد تک اور کس اہمیت کے ساتھ سموتے ہوئے ہیں؟ اس امر کا تفصیلی جائزہ ذیل کی سطروں میں ملاحظہ کیجیے؛

۱۔ نماز۔ اس سلسلے میں ہمیں قدرتی طور پر سب سے پہلے نماز کو لینا چاہیے۔ کیونکہ ساری عبادتوں میں وہ سب سے بڑی عبادت ہے، پورے دین کا مغز اور بندگی کا سرچشمہ ہے، اور اُسے اسلام کا شاہ ستون (عِمَادُ الدِّینِ) فرمایا گیا ہے۔ اس عبادت کو جن شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں یہ امور بھی شامل ہیں؛

(۱) نماز ادا کرتے وقت ہر مسلمان کا رخ ایک ہی خاص مقام (کعبہ) کی طرف ہونا چاہیے۔

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ

(البقرہ: ۱۴۴-۱۵۰)

”اور جس جگہ بھی تم ہو اپنے رخ اسی (کعبہ) کی طرف پھیر لو“

کسی کا مسلمان تسلیم کیا جانا موقوف ہے اس بات پر کہ وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكَلَ

ذَبْحَتَنَا قَدْ اِلَيْكَ الْمَسْلُوكُ۔ الخ (بخاری جلد: ۱ صفحہ ۵۶)

ایک ہی خاص مقام کی طرف رخ کرنے کا ایسا تاکید حکم اس حقیقت کے باوجود ہے کہ نماز میں اللہ کی یاد کا نام ہے وہ ہر جگہ اور ہر طرف ہے کسی خاص جگہ یا کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہے، جیسا کہ خود قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے اور واضح ترین لفظوں میں کیا ہے۔

فَاَيْنَمَا تُوْتُوا فَاْتَكُمْ وَجْهُ اللّٰهِ (البقرہ: ۱۱۵)

”پس جس طرف بھی تم منہ کرو اللہ اُدھر ہی ہے۔“

(ب) فرض نمازوں کو \_\_\_\_\_ ان فرض نمازوں کو جو تمام نمازوں

کے درمیان فی الواقع اصل نماز ہیں \_\_\_\_\_ اکٹھے مل کر ادا کرنے کی تاکید

فرمائی گئی ہے، اور نماز باجماعت کا ثواب، اس نماز کے مقابلے میں ستائیس

گنا بتایا گیا ہے جو اکیلے پڑھ لی گئی ہو۔ (بخاری جلد ۱) نماز کی یہ باجماعت ادائیگی

جس حد تک ضروری ہے اس کا اندازہ صرف اسی ایک بات سے لگایا جا

سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں، جو کسی عذر کے

بغیر نماز باجماعت سے غیر حاضر تھے، فرمایا:

”میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے

مقرر کروں، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز باجماعت میں

حاضر نہیں ہوتے، اور حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹھڑ ڈال کر ان کے سمیت ان کے گھروں کو پھونک دیا جائے۔ (مسلم جلد ۱)

یہ اس نبی کے الفاظ ہیں جو رحم و شفقت کا پیکر تھا۔ اس کے باوجود تارکِ جماعت کے بارے میں آپ کی زبان سے ایسے سخت اور دہشت بھرے الفاظ کا نکلنا بتاتا ہے کہ باجماعت نماز نہ پڑھنا کوئی معمولی کوتاہی نہیں بلکہ ایک سنگین معصیت ہے۔

(ج) نماز کو اکٹھے مل کر اور باجماعت ادا کرنے کے سلسلے میں صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور پھر اپنے اپنے طور پر اللہ کی یاد میں مشغول ہو رہیں۔ بلکہ ضروری ہے کہ سب لوگ صفیں باندھ کر اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور صفیں تیر کی طرح سیدھی ہوں۔ (بخاری جلد ۱)

پھر سب میں سے ایک اہل تر شخص پوری جماعت کا امام ہو، جو سب کے آگے کھڑا ہو۔ اور سب لوگ اس کی اقتدار میں یہ قرینہ ادا کریں، اقتدار ایسی کامل ہو کہ پوری جماعت کی ایک ایک حرکت امام کی حرکت کے تابع ہو، پوری جماعت امام ہی کے ساتھ کھڑی ہو، اسی کے ساتھ جھکے، اسی کے ساتھ سجدے میں جائے، اسی کے ساتھ قعدہ کرے، جس وقت وہ قرأت کر رہا ہو پوری خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ اس کی سماعت کرے۔ نماز کی ادائیگی میں اگر وہ کسی بھول چوک کا مرتکب ہو رہا ہو تو بھی اس کی اقتدار سے علیحدگی اختیار کر لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یسٰں مُبِحَاتِ اللّٰہِ، کہہ کر اسے اس غلطی



پر متنبہ کر دیا جائے۔

یہ دونوں باتیں ————— صفت بندی اور امام کی پیروی —————

محض فضائلِ نماز کا مرتبہ نہیں رکھتیں، بلکہ وہ نمازِ باجماعت کی شرطوں میں داخل ہیں۔ ان میں اگر نقص رہا تو یہ نقص نماز کو بھی ناقص بنکے بے سود بنا کر رکھ دیتا ہے، اور اس سے صرف آخرت ہی نہیں، دنیا کی زندگی بھی تباہیوں کے خطرات میں جا گھرتی ہے۔ ایک شخص کا سینہ صفت سے ذرا باہر نکلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی:

عِبَادَ اللَّهِ لَتَسُوَّقَ صُفُوفُكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ  
اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ۔ (مسلم، جلد ۱)

اللہ کے بندو! اپنی صفوں کو ضرور ہی درست اور  
سیدھی رکھو، ورنہ اللہ تمہارے رُخ ایک دوسرے کے  
خلاف کر دے گا۔

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا:  
"جو شخص نماز کی صفت کو جوڑے گا اُسے اللہ جوڑے  
گا، اور جو کسی صفت کو کاٹے گا اُسے اللہ کاٹ دے گا۔"  
(ابوداؤد۔ جلد ۱)

اسی طرح امام کی اقتدار کے سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے کہ:  
"جب تم میں سے کوئی شخص امام سے پہلے ہی (مثلاً رکوع  
سے) اپنا سر اٹھا لیتا ہے تو کیا اسے اس وقت اس بات کا ڈر

نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا۔“

(مسلم - جلد اول)

(د) نماز کو جماعت کے ساتھ اور ایک امام کی اقتدار میں ادا کرنے کا یہ حکم عام، ظاہر ہے کہ محلہ واری، نوعیت کا ہے۔ یعنی اس حکم کا منشا یہ ہے کہ بستی کے ہر محلے کے لوگ اپنی پانچوں فرض نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ لیکن اس سلسلے میں شریعت اسی پر بس نہیں کرتی، بلکہ ابھی اور آگے جاتی ہے، اور ہدایت دیتی ہے کہ ہفتہ میں ایک نماز اس طرح پڑھی جائے کہ بستی کے تمام باشندے ایک ہی مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، اور پوری بستی ایک جگہ، ایک امام کے پیچھے، ایک ساتھ اپنے رب کے حضور جھکے۔ یہ جمعہ کی نماز ہے۔ اس نماز کی عظمت اور اہمیت سورہ جمعہ کا نظم کلام یہ بتاتا ہے کہ اُمت مسلمہ اپنا فرض منصبی اسی وقت ٹھیک ٹھیک ادا کر سکتی ہے جب کہ اس کا طرز فکر و عمل اپنی حقیقی شان کے ساتھ باقی رہنا جن باتوں پر موقوف ہے ان میں سے ایک یہ نماز جمعہ کی اقامت بھی ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس نماز کا حق نہ ادا کیا تو وہ بھی اسی قانون خداوندی کی زد میں آسکتے ہیں جس کی زد میں آکر پھلی ملتیں (خصوصاً ملت یہود) ذلت کی موت مریچکی ہیں۔ کچھ ایسی ہی ہدایت اور تنبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔

آپ کا مریح ارشاد ہے کہ:

لوگوں کو جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز ہی آجانا چاہیے،

ورنہ ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر گھر کر دے گا اور

پھر وہ حق سے غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ (مسلم - جلد اول)

۱۵) نماز میں جو کچھ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اس میں کثرت سے جمع کے

صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔

مَثَلًا اِيَّاكَ نَعْبُدُ

خدا یا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں

اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

”ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں“

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

”ہمیں سیدھی راہ چلا“

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”اے ہمارے پروردگار! حمد تیرے ہی لیے ہے“

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ جِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

”سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے سارے نیکو کار بندوں پر“

وغیرہ۔۔۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کرتے وقت لوگوں کو

جس طرح ظاہری طور پر اکٹھے اور صاف بستہ ہو رہنے کی ہدایت ہے، اسی

طرح ذہنی طور پر بھی باہمی وحدت اور یگانگی کا احساس رکھنے کا حکم ہے۔

یہ امور ایسے ہیں جن کے بغیر نماز، نماز ہوتی ہی نہیں۔ واضح طور پر یہ سب اجتماعی

آداب ہیں، اور ان کا منشا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نماز کو شعورِ اجتماعی اور

احساسِ نظم و انضباط کا بھی سرچشمہ بنا دیا جائے، مسلمان جس وقت پوری توجہ

سے بلکہ اپنے پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے اس وقت بھی ایک جماعت کا جزو ہونے کی واقعیت ناقابل فراموش ہو، وہ حضوری کے ان مخصوص ترین لمحات میں بھی اپنے کو ایسا مستقل اور بے ہم فرد تصور کرے جو اپنے فرائض، اپنے مقصدِ حیات اور اپنے مفادات کے لحاظ سے دوسرے تمام اہل ایمان سے بالکل الگ تھلگ ہو، اور ان فرائض کی تکمیل اور ان مقاصد و مفادات کی تحصیل میں ان سے نہ کوئی ربط رکھتا ہو نہ اس ربط کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہو۔ اس کے خلاف وہ اپنی دعاؤں اور گزارشوں تک سے بھی یہ حقیقت بار بار نمایاں کرتا رہے کہ اس کے سامنے اپنی انفرادیت کا استقلال بھی ہے اور جماعت کا ناقابل فراموش ارتباط بھی۔ وہ خشکی کا مسافر نہیں ہے کہ اکیلے ہی منزلِ مقصود تک پہنچ جائے گا، بلکہ کشتی کا مسافر ہے جو عام حالات میں سارے اہل کشتی کے ساتھ ہی ساحلِ مراد پر قدم رکھ سکتا ہے۔

اب نماز کے ان سارے اجتماعی آداب کو، اور ان کے پیچھے کام کرنے والے اس منشا کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیے کہ اس عبادت میں اجتماعیت کی روح کس زور و قوت کے ساتھ رچا بسادی گئی ہے، اور اس سے اسلام میں اجتماعیت کا مقام کتنا عظیم و کھائی دینے لگتا ہے، لیکن یہ اندازہ صحیح اور کھل نہ ہو گا جب تک کہ نماز کے بنیادی مقصد اور اس کی اصل غرض و غایت سے ان آداب کی مناسبت کا حال بھی نظر میں نہ ہو۔ نماز کی اصل غرض خدا کے دربار کی حاضری اور اس کا ذکر ہے، اور اس ذکر کی جان، دل کا عاجزانہ جھکاؤ ہے۔ یہ دونوں جاتی بوجہ حقیقتیں ہیں۔ غور کیجیے کہ نماز کے اس اصل مقصود کو حاصل



اس غور و فکر کے بعد آپ جس نتیجہ پر بھی پہنچیں، اس کے اندر یہ حقیقت بھی لازماً داخل ہی ہوگی کہ شارع اسلام کو مسلمانوں کے اندر منظم اجتماعیت کا شعور بیدار اور مستحکم رکھنا انتہائی اور غیر معمولی حد تک عزیز و مفید تھا، اتنا عزیز کہ نماز کے اصل مقصد تک کے حصول میں دُسواریاں پیدا ہو جانے کے کھلے ہوئے عملی امکان پر اس لئے اس شعور کی بیداری اور استحکام کو ترجیح دی۔ بلاشبہ یہ اس امر کی بھی دلیل ہے کہ ملت میں منظم اجتماعیت کے شعور کو بیدار رکھنا بجائے خود اقامت نماز کا ایک ذیلی مقصد ہے۔

اے چنانچہ اس امر پر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو تنہائی میں نماز پڑھنے سے تو پورا خشوع حاصل ہوتا ہو لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اس کے خیالات اکثر مٹ جاتا کرتے ہوں تو بھی اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ فرض نمازیں تنہائی میں ادا کرے اور جماعت کی شرکت چھوڑ دے۔ صرف ایک صاحب، امام غزالی کی رائے اس کے خلاف ہے۔ یعنی انہوں نے جماعت کی شرکت پر خشوع کے حصول کو ترجیح دی ہے۔ مگر ان کی اس رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔

ذو ما افتاء الغزالی فی من یتحقق  
من نفسه انه یخشع فی جمیع صلواتہ منفرادون ما اذا صلی فی  
جماعۃ لتشتت ہدہ بانہ اذا کان الجمع ینعہ الخشوع فی اکثر  
صلواتہ فالانفراد لہ اولیٰ ضرورۃ (حاشیہ مشکوٰۃ: ص ۹۶)

اے اس موقع پر یہ بات بھی یاد دلا دینے کی ہے کہ فرض نمازوں کی باجماعت ادائیگی سے نماز کے اصل مقصد (ذکر الہی) کے حصول میں اگر خلل اور (باقی صفحہ ۵۳ پر)

۲۔ زکوٰۃ: نماز کے بعد دوسری اہم ترین عبادت زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا

رقیقہ ماشیہ ص ۵۲ سے) دشواری پیدا ہونے کے امکانات ہیں تو شریعت نے اس معاملہ کو یونہی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ تلافی کی صورت بھی تجویز کر دی ہے اور وہ اس طرح کہ جہاں اس نے فرض نمازوں کو ایسے زبردست اجتماعی آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہیں اس امر کی بھی ترغیب دے رکھی ہے کہ دوسری تمام نمازوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر ہی میں پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

صَلُّوْا اِيْهَا النَّاسُ فِيْ بِيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلٰوَةِ صَلٰوَةُ

الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ۔ (بخاری جلد اول)

”لوگو! نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، کیونکہ سب سے اچھی نماز وہ

ہوتی ہے جسے آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نمازوں کے“

چنانچہ خود آپ کا اُسوہ بھی یہی تھا۔ آپ نفل اور سنت نمازیں اپنے حجرے ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے اس ارشاد اور عمل کی سب سے اہم مصلحت واضح طور پر یہی ہے کہ گھر کی تنہائی میں دل کو پوری یکسوئی میسر ہوتی ہے، اس لیے نماز کا اصل مدعا حاصل کرنے کے لیے یہ جگہ زیادہ موزوں اور سازگار ہے۔ اس طرح یہ نفل نمازیں خشوع باطن کے حصول کی اس امکانی کسر کا پورا پورا بدل مہیا کر دیتی ہیں جو فرض نمازوں میں جماعت کی پابندیوں کے باعث روزنامہ ہو سکتی ہے۔

اب اگر نماز کی فیض بخششوں پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالیے تو صاف دکھائی دے گا کہ وہ کامل خیر باطن اور کامل خیر ظاہر، دونوں کی جامع ہے۔ وہ اگر باطن کو حق (باقی صفحہ ۵۴ پر)

اسلامیت کی ان دو بنیادی علامتوں میں سے ایک ہے جو کسی غیر مسلم کے دائرہ اسلام میں داخل قرار پانے یا نہ پانے کا سیاسی طور پر فیصلہ کرتی ہیں۔ اس عبادت کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ۔  
 ..... إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْفِيقًا  
 مِنْ أَغْنِيَا لَهُمْ وَتُرُدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ - (مسلم جلد ۱)  
 ”اللہ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے لہجوں سے لی جاتی ہے اور ان کے ضرورت مندوں پر لوٹا (کر بانٹ) دی جاتی ہے۔“

رتبیہ حاشیہ ص ۵۳ سے) کی حضور نبی عطا کرتی ہے تو ساتھ ہی ظاہر کو اجتماعیت کے ادب سے مزین اور نظم و اتحاد کی قوتوں سے مالا مال بھی کرتی رہتی ہے، اس کے اس فیضان سے خواہ آج کے پروان اسلام کتنے ہی بے خبر کیوں نہ ہو چکے ہوں، مگر ایک زمانہ ایسا بھی گزر رہا ہے جب اسلام کے دشمن بھی اس سے بے خبر نہ تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ:

كَانَ رَسْمٌ إِذَا رَأَى الْمُسْلِمِينَ يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ  
 يَقُولُ أَكُلٌ عَمْرُكَ بَدَىٰ يَعْلَمُ الْكَلَابَ الْأَدَابَ -  
 (مقدمہ ابن خلدون - ص ۱۱)

”مشہور ایرانی سپہ سالار رستم جب میدان جنگ میں مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھے ہونے دیکھتا تو کہہ اٹھتا ”عمرزاد پیرا کلیمہ کھائے جا رہا ہے، وہ گتوں کو ادب سکھا رہا ہے۔“



اس ارشاد نبوی سے دو خاص باتیں معلوم ہوتی ہیں: ایک تو یہ کہ اس اہم عبادت کی جو غرض و غایت ہے اس کا ایک رخ (خارجی رخ) اسلامی معاشرے کے اقتصادی مصالح کی طرف ہے، یعنی یہ جس مقصد سے فرض کی گئی ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ملت کے حاجت مند افراد اپنی معاشی مجبوریوں اور پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے بے سہارا نہ رہ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ طریقہ اس عبادت کا یہ ہے کہ مالِ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں سے لیا اور وصول کیا جاتے، اور پھر تنگ حال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتے، یہ نہیں ہے کہ مال دار مسلمان خود ہی زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دے دیا کریں۔ وصول کیے جانے اور تقسیم کر دینے جانے (تَوَخَّذُوا تَوَدًّا) کی بات چاہتی ہے کہ لازماً کوئی ہاتھ ہو جو وصول کرنے اور تقسیم کرنے کا فریضہ انجام دینے کا منع طور پر یہ ہاتھ حکومت ہی کا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ **وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا** سے معلوم ہوتا اور دورِ نبوی و دورِ خلافت راشدہ کے تعامل سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنا مال زکوٰۃ حکومت کے حوالے کرنا جس درجہ ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ عہدِ صدیقی میں جب کچھ لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تلوارِ شہادت لی، اور پوری شہادت

کے ساتھ فرمایا:

وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالًا كَانُوْا يُوَدُّوْنَكَ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِرِسْوَالِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَابَلْتَهُمْ عَلٰى

بَابِ مَنَعَةٍ (مسلم جلد ۱، کتاب الایمان) میں

خدا کی قسم، اگر ان لوگوں نے اونٹ باندھنے کی ایک

رسی کو بھی جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کرتے تھے،

میرے حوالے کرنے سے روک رکھا تو میں اس کے لیے ان سے

جنگ کروں گا۔"

زکوٰۃ کے متعلق شریعت کے ان دونوں فرمانوں پر نظر ڈالیے۔ صاف محسوس

ہوگا کہ اس نے عبادت کو بھی اجتماعیت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ ایک طرف تو

اس کے مقاصد ہی میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور مواسسات شامل ہے

اور یہ وہ عمل اور جذبہ عمل ہے جو صالح اجتماعیت کا سب سے اہم

بنیادی پتھر ہے۔ دوسری طرف اس عبادت کے طریق ادا کو اس

نے حکومتی نظام کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ جو اجتماعیت کی کامل

ترین شکل ہے۔ پھر اس نے ایسا اس حقیقت کے باوجود کیا ہے کہ زکوٰۃ کے اصل

مقصد اور اس کی بنیادی غرض و غایت کے لیے یہ بات کچھ ناسازگار ہی ہو سکتی

ہے، سازگار کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد اور اس کی بنیادی

غرض و غایت نفس کا تزکیہ ہے۔

تَطَهَّرْهُمُ حَتَّىٰ تَزْكِيَهُمْ بِهَا۔ (التوبہ: ۱۰۳) لہذا

تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ (اللیل: ۲۰)

ظاہر ہے کہ اس مقصد کا تقاضا یہی ہے کہ زکوٰۃ حاجت مندوں کو بطور خود

دی جائے، اور اس طرح دی جائے کہ دینے والے کا بایاں ہاتھ بھی یہ نہ جانے

کہ دانتیں ہاتھ لے کر کیا اور کسے دیا ہے؟ ورنہ کھلے طور پر، اور وہ بھی حکومت کے اقتدار، نظم، اور ضوابط کے تحت زکوٰۃ دینے کی شکل میں خلوص اور لہجیت کے متاثر ہو رہنے کا اندیشہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام نے نماز ہی کی طرح زکوٰۃ کی زبان سے بھی اپنی اجتماعیت پسندی کی شدت کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیونکہ عبادات کے اصل اور بنیادی مقصد کے متاثر ہو رہنے کے امکان اور اندیشے پر اجتماعی آداب اور مصالح کو اس نے یہاں بھی ترجیح دے رکھی ہے۔

(۳) روزہ: تیسری عبادت روزہ ہے۔ یہ ایک "منفی" قسم کی عبادت ہے۔ یعنی اس میں نماز یا زکوٰۃ یا حج کی طرح کچھ کیا نہیں جاتا کہ اسے دیکھا جاسکتا ہو، بلکہ کچھ خاص کاموں سے روکا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس عمل کی نوعیت منفی قسم کی ہو، اس کو اجتماعیت کا جامہ پہنانا دشوار، اور شعور اجتماعیت کی بقا و ترقی کا ذریعہ بنانا دشوار تر ہے۔ لیکن روزے کے سلسلے میں شریعت نے جو احکام دیئے ہیں ان سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ اس نے اس منفی عبادت کو بھی اجتماعیت کا "ہادی" اور "معلم" بنا دیا ہے۔ حکم ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی متعین ہینے میں روزے رکھیں، ہر روز تقریباً ایک ہی وقت سحری کھائیں اور پھر ایک ہی متعین وقت پر افطار کریں۔ ان احکام کے نتیجے میں اس عبادت سے جو صورت حال وجود میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پورا اسلامی معاشرہ مسلسل ایک ہینے تک ایک منضبط تربیتی کنیپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک ہی نصاب سے عبودیت ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب

تک چھاتی ہوتی ہوتی ہے، ایک ہی حالت ضبط و ریاض ہوتی ہے جو فرد فرد کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہے۔ کیا وہ معاشرہ جس پر مسلسل ایک مادہ تک ایسی غیر معمولی یکساں ذہنی فصحا اور یکساں ظاہری حالت طاری رہے اور جو پوسے کا پورا ایک تریبیتی کمیپ بنا ہوا ہو، اس کے افراد کے ذہنوں میں یہ تصور رہ رہ کر نہ ابھرتا رہے گا کہ ہم سب ایک ہی مشن کے علم بردار اور ایک ہی محاذ کے سپاہی ہیں؟

بلاشبہ ایک منفی نوعیت کی عبادت کو بھی اس طرح اجتماعیت کا حامل بنا دینا حسب اجتماعیت کے کمال کی دلیل ہے۔

(۴) حج : اب چوتھی عبادت حج کو لیں۔ حج کی غایت یہ ہے کہ اللہ

واحد کا پرستار اور معبودِ حق کا جاں نثار بندہ اس گھر پر حاضری دے جو توحید

کا مرکز ہے، جہاں ہر طرف سچی خدا پرستی کے نشاناتِ خداکاری کا درس دے

رہے ہیں جو محمدؐ اعظم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ایمان و اسلام کی ایک محکم

یادگار ہے۔ حاضری اس لیے دے تاکہ اس کے سر کی آنکھیں اور

اس کے دل کی نگاہیں، دونوں ہی اس شہادت کہہ الفنت کا قریب سے مشاہدہ

کر لیں، اور وہ جان لے کہ قول لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کی عملی تفسیر کیا ہے؟ پھر

خدا پرستی کے سچے جذبات سے سرشار ہو کر بندگی کے میدانِ عمل میں ایک

نئے جوش کے ساتھ واپس آئے۔

اس عبادت کے ارکان میں سب سے بڑا رکن میدانِ شرفات کی

حاضری ہے۔ یہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آتے ہوئے مختلف نسلوں،

قوموں، زبانوں اور رنگوں کے لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان سب کا ایک امیرِ حج ہوتا ہے، یہ امیر پورے مجمع کو خطاب کرتا ہے، اور اسے ایمان کے حقائق اسلام کے مطالبات اور بندگی کے آداب کی تلقین کرتا ہے۔ جو شخص اس اجتماع میں حاضر نہ ہو سکا اس کا حج ادا نہ ہو سکے گا، چاہے اس نے باقی مراسم حج کتنے ہی اہتمام سے کیوں نہ ادا کر لیے ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حج کو بھی نمایاں حد تک اجتماعیت کے قالب میں ڈھال دیا گیا اور شعورِ اجتماعیت کا ایک زبردست ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔

اگر غور کیجیے تو دوسری عبادتوں کی طرح یہاں بھی دکھائی دے گا کہ حج کی جو اصل غایت ہے اس کا حصول کسی اجتماع کی ضرورت سے یکسر بے نیاز ہے، یہی نہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے وہ اس کے لیے نامساعد بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تنہائی کا سکون اور یکسوئی کسی ہنگامہ اجتماع کے مقابلے میں اس امر کا بہتر موقع فراہم کر سکتی ہے کہ انسان کعبہ اور اطرافِ کعبہ کے شعائر اللہ سے ایمان کی تازگی حاصل کرے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ حج اجتماع کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گو یاد دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتی ہے کہ اجتماعیت کی دینی اہمیت بتانے اور ذہن نشین کرانے میں دوسری عبادتوں سے وہ کسی طرح پیچھے نہیں ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے ان سب سے آگے ہی ہے۔

اسلام نے اپنی عبادتوں میں جن اجتماعی آداب کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی ہے ان کی ضروری تفصیل آپ کے سامنے آچکی، اور ان کے اندر ان آداب کی جو اہمیت

ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اس کے بعد آپ کا اعتراف اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ ان عبادتوں میں اجتماعیت کی روح جس حد تک اتار دی گئی ہے اس کے آگے کسی اور حد کا وجود، عملی امکان سے باہر ہے۔

یہ ہے اجتماعیت کے نقطہ نگاہ سے اسلامی تعلیمات کے مختلف شعبوں کا جائزہ۔ اس جائزے کے بعد یہ کہنا کسی طرح غلط نہ ہوگا کہ اسلام میں اجتماعیت کو جو بلند ترین مقام عطا کیا گیا ہے اس کی نظیر کسی اور مذہب میں تو کیا، کسی اور نظام میں بھی نہیں پائی جاسکتی۔

# اہمیت کی وجہ

غیر اجتماعی زندگی کے خوفناک نتیجے

اجتماعیت، اسلام کو کچھ ایسی ہی مطلوب ہے جیسا کہ پانی مچھلی کو مطلوب ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو مچھلی بخٹوں سے روشنی میں آتی ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر اسلام نے اجتماعییت کو ایسی غیر معمولی اہمیت کس وجہ سے دے رکھی ہے؟ وہ اپنے پیروؤں کو جماعتی زندگی بسر کرنے پر اس قدر مہر کیوں ہے؟ وہ ایک منظم سیاسی نظام کے قیام کو ضروری کیوں ٹھہراتا ہے؟ وہ اس نظام کے سربراہ کی اطاعت کو اللہ و رسول کی اطاعت، اور اس کی نافرمانی کو اللہ و رسول کی نافرمانی کیوں قرار دیتا ہے؟ وہ الجماعۃ سے بالشت بھر بھی علیحدگی اختیار کر لینے والے کی گردن سے اپنا حلقہ کیوں نکال لیتا، اور ملی اتحاد میں شکاف ڈالنے والے پر سے اپنی امان کیوں اٹھا لیتا ہے؟ وہ بیعتِ خلافت سے محروم مہربانے والے کی موت کو جاہلیت کی موت کیوں کہتا ہے؟ — اس غور و فکر اور اس تحقیق کی ضرورت

بالکل کھلی ہوئی ہے۔ اس طرح کے اہم مسائل میں عام انسانی ذہن صرف کیا ہے؟  
 کے جواب پر کبھی مطمئن نہیں ہو جایا کرتا اسے اطمینان اسی وقت ہوا کرتا ہے  
 جب وہ یہ بھی جان لے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے یہ حقیقت اگرچہ اپنی جگہ  
 بالکل واضح اور روشن تھی، مگر ذہنوں میں اپنا صحیح مقام پاسکے کے لیے اس بات  
 کا شدید مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے اسباب و مصالح بھی سامنے آجائیں۔

اس سلسلے میں اتنی بات تو بالکل صاف اور قطعی سمجھنی چاہیے کہ اجتماعیت،  
 اسلام کی غرض و غایت پوری کرنے میں کوئی بڑا ہی خاص حصہ لیتی، اور دین و  
 ایمان کے مفادات کی کوئی اہم ترین خدمت انجام دیتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا  
 تو وہ ایسے اتنی غیر معمولی اہمیت ہرگز نہ دیتا۔ اس لیے سوچنے اور معلوم کرنے  
 کی بات دراصل صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کی غرض و غایت پوری کرنے میں کس  
 طرح حصہ لیتی ہے اور دین و ایمان کے مفادات کی کیا خدمت انجام دیتی ہے؟  
 اس تحقیق کے لیے جب ہم اسلامی ماخذ کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسا کہ لازماً  
 کرنا ہی چاہیے، تو ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ مِنَ الْقَوْمِ

الْقَاصِيَةَ۔ (ابوداؤد)

جماعت سے چمٹے رہو، کیونکہ بھیڑ یا اس بکری کو کھا

جاتا ہے جو دور نکل جاتی ہے۔

الشَّيْطَانُ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كَذَنْبِ الْغَنِيِّ يَأْخُذُ

الشَّاذَةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ (مسند احمد بحوالہ مشکوٰۃ)



”شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح کہ بکریوں کے لیے  
 (یہ معروف) بھیڑیا ہوتا کرتا ہے، یہ بھیڑیا اسی بکری کو پکڑتا ہے  
 جو الگ جا بھاگتی، یا دُور نکل جاتی یا کسی طرف علیحدہ ہو رہتی ہے۔“  
 عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَاَيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَاِنَّ  
 الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاَثْنَيْنِ اَبَدًا

(ترمذی جلد دوم، کتاب الفتن)

”الجماعۃ، کا دامن مضبوطی سے تعلق رہو، اور ٹھوٹ کے  
 قریب بھی نہ پھٹو کیونکہ شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ  
 دو سے بہت دُور ہوتا ہے۔“

یعنی اجتماعی شیرازے سے اپنے کو وابستہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ  
 ایمانی زندگی کی ٹھیک ٹھیک حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اجتماعیت موجود  
 نہ ہو تو مسلمان کے دین و ایمان کی خیر نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ اس شکل میں وہ گویا شیطان  
 کی کمین گاہ میں ہوتا ہے، جہاں وہ اسے بڑی آسانی سے مار لے سکتا ہے۔  
 جب کہ ملی اجتماعیت ایسی آہنی پناہ گاہ ہے جس کے اندر گھس آنا اور گھس کر کسی  
 صاحب ایمان کو شکار کر لینا اس کے لیے آسان نہیں رہا کرتا۔

یہ جواب، جو ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں ملتا  
 ہے، اگرچہ مجمل ہے، مگر سوال زیرِ بحث کے حل کے لیے بالکل کافی ہے کیونکہ  
 اس کا یہ اجمال ایسا نہیں ہے جس کی تفصیل خود ایک مسئلہ بن جاتی ہو، بلکہ ایسا اجمال  
 ہے جس کی وضاحت کے لیے دین کا پورا فلسفہ، شریعت کا پورا نظام اور ملت

کی پوری تاریخ موجود ہے۔ اس فلسفے، اس نظام اور اس تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کا نہ ہونا مسلمان کے دین و ایمان کو ایک دو نہیں، تین تین جہتوں سے شدید ترین خطرے میں ڈال دیتا ہے۔

(۱) ماحول کی باطل نوازی

سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی اجتماعیت سے محروم ماحول غلط افکار، اعمال اور اقدار کے لیے نسبتاً زیادہ سازگار اور صالح افکار، اعمال اور اقدار کے حق میں بہت کچھ ناسازگار ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ممکن حدود کے اندر بھی تقویٰ اور دین داری کی راہ چلنا آسان نہیں رہ جاتا۔ یہ ایک بہت ہی واضح حقیقت ہے، جس کے سلسلے میں نہ کسی شرح کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی۔ معمولی غور و فکر سے بھی یہ بات سمجھ لی جاسکتی ہے کہ جہاں اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت موجود نہ ہوگی وہاں اسلام کے مطلوبہ افکار و اعمال اور اخلاق و اقدار کے لیے فضا سازگار نہ رہ جائے گا۔ اسلامی اجتماعیت کا مطلب آخر ہے کیا؟ یہی تو نہ کہ ایک ایسا متحد اور منظم معاشرہ قائم ہو جس کی شیرازہ بندی اللہ کی رستی سے ہوتی ہو، جس کی سب سے نمایاں خصوصیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، جس کا فرد فرد خود ہی بھلا بننے کو کافی نہ سمجھتا ہو بلکہ دوسروں کو بھی بھلا بنانے کی کوشش کرتے رہنا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہو جس کی عام فضا گمراہیوں اور برائیوں کے محرکات سے پاک ہو، جس میں خدا ترسی ہی عزت کا معیار ہو، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے اگے بڑھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی جس کا خاص امتیاز ہو۔ واضح بات ہے کہ ایسے معاشرے میں ایک صاحب احساس مسلمان کے لیے نیک فضا آسان اور بڑا بننا

مشکل ہوگا۔ کہنا چاہیے کہ اس کے لیے مسلمان بن کر رہنا ہموار زمین پر چلنے کے ہم معنی ہوگا۔ حتیٰ کہ جس کی ایمانی اور اخلاقی حسنِ ظہیر سے درجے کی ہوگی، وہ بھی بُرائیوں سے فی الجملہ محفوظ ہی رہے گا۔ کیونکہ یہ ماحول اسے برابر نیکیوں کی طرف مائل کرتا اور بُرائیوں سے نفرت دلاتا رہے گا۔ جس کا نتیجہ فطری طور پر یہی ہوگا کہ اس کے فکر و عمل پر خدا

ترسی اور خیر پسندی کا ذوق غالب رہے گا۔ اس کے بالمقابل اسلامی

اجتماعیت کی ناموجودگی کا مطلب ہے ایک ایسا ماحول جہاں مسلمان تو ہوں مگر ان

کا کوئی معاشرہ نہ ہو، اور اگر معاشرہ ہو بھی تو ایسا ہو جس کا نہ کوئی شیرازہ ہو نہ کوئی

اجتماعی نظم ہو، اور اگر شیرازہ اور اجتماعی نظم بھی ہو تو وہ قرآنی اور اسلامی نہ ہو۔ کوئی

شک نہیں کہ یہ ماحول صحیح معنوں میں معزوف، پسند اور منکر، بیزارہ ہرگز نہ ہوگا۔

یہاں اسلامی قدروں کی بالادستی قائم نہ ہوگی۔ یہاں ہر طرف باطل پسندی کے محرکات

پھیلے ہوں گے۔ ایسی حالت میں قدرتی طور پر ایک عام مسلمان کے لیے نیک بننا

بہت مشکل اور بُرا بننا بہت آسان ہوگا، یہاں اس کے لیے مسلمان بن کر رہنا کسی

ہموار زمین پر چلنا نہیں بلکہ کھڑی پہاڑی پر چسپڑھنا ہوگا۔ جس کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے

کہ مسلمان بحیثیتِ مجموعی خدا ترسی اور خیر پسندی کے ذوق سے دُور ہوتے رہیں گے۔

(۲) اتباعِ دین کا لازمی نقص

دوسری بات یہ کہ ایسے ماحول اور معاشرے میں مسلمان عملی طور پر ایک خاص حد

تک تو اسلام سے لازماً بے تعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی کسی ایسے شخص کی

نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکتی جو یہ جانتا ہو کہ اسلام کیا ہے، اور مسلمان اس زمین پر

کس لیے بھیجا گیا ہے؟ دین کے پورے نظام پر ایک نظر دوڑا جائے تو صاف

دکھائی دے گا کہ اسلامی اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کی شکل میں مسلمان عملاً ذیل کے متعدد پہلوؤں سے اسلام سے بے تعلق ہو کر رہ جاتا ہے:

(۱) سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ اس کی بندگی کے کتنے ہی اہم ترین مطالبات کو پورا کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوتا۔ اس کے دین کی شہادت اور اقامت سے زیادہ بڑا اور اہم فریضہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ فریضہ ہے جو مسلمان کے وجود کی کل غایت ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں اور کیا ہو گا، جسے حدیث میں مزاحمت سب سے افضل عمل، فرمایا گیا ہے اور جس کے اشتیاق سے خالی رہنے والے سینے کو نفاق کا مریض قرار دیا گیا ہے۔

اجتماعی زندگی سے محروم رہ کر کیا ان فرائض سے عہدہ برآ ہو لینے کی کوئی شکل ممکن بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اور بالکل نہیں۔ اچھا ان امور کو بھی چھوڑیے، اور ان احکام دین کو لیجیے جن کے عبادت، اور حقوق اللہ ہونے میں الفاظ کی حد تک بھی دو رائے نہیں ہو سکتیں۔ یہ نماز، یہ زکوٰۃ اور یہ حج بھی تو اجتماعیت کے بغیر اُس معیاری شکل میں ادا نہیں ہو سکتے جس شکل میں اللہ و رسول ان کو ادا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان ساری حقیقتوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت تو موجود نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف ہونے سے پرہیز جائے؟

(۲) یہی حشر بندوں کے حقوق کا بھی ہوتا ہے کسی دکھیار سے کی مدد، کسی بے کس کی خبر گیری، کسی مظلوم کی فریاد رسی، کسی مریض کی عیادت، کسی جنازے کی شرکت، غرض عام طور سے ایک مسلمان پر دوسرے بندگانِ خدا کے جو حقوق

عاید ہوتے ہیں، اجتماعی زندگی کے بغیر ان کے ادا ہو سکنے کے پورے مواقع کسی طرح باقی نہ رہ جائیں گے، اور اس کی زندگی اس اجتماعیت سے جتنی ہی زیادہ دور ہوگی اتنے ہی زیادہ یہ مواقع بھی کم ہو رہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر یہ دوری کامل علیحدگی اور تنہائی کی حد کو پہنچی ہوتی ہو تو یہ مواقع سرے سے ناپید ہو جائیں گے۔

(ج) اخلاقیات کا حال بھی کچھ مختلف نہیں رہتا۔ دین میں اچھے اخلاق کی جو اہمیت ہے وہ کچھ ڈھکی چھپی نہیں۔ ایک طرح سے گویا وہی حاصل دین ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ "مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں محاسن اخلاق کی تکمیل کروں۔" (رَبِّعِثْتُ لِأَتِمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مَوْطَأٌ) لیکن اتنی اہم چیز بھی غیر اجتماعی زندگی میں اپنے ظہور کے لیے ترستی رہ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جہاں یہ غیر اجتماعی زندگی اپنی آخری شکل یعنی تنہائی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے وہاں راست بازی، امانت داری، پاک دامنی، حیا، وفائے عہد، رحم، شفقت، خیر خواہی، ایثار، صبر، تحمل، سنجیدگی، نرم خوئی، خوش گفتاری اور فراخ دلی جیسے بے شمار انسانی فضائل، اسلامی اخلاق اور ایمانی اوصاف عملاً مجرد تصورات بن کر رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ان چیزوں کا تعلق تمام تر انسانوں کے باہمی روابط اور معاملات سے ہوتا ہے۔ معروف معنوں میں "اخلاق" کہتے ہی اس رویے کو ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان کے، یا ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پر جا رہتا ہو جہاں اس کا کسی اور شخص سے سابقہ ہی نہ پیش آتا ہو تو وہاں وہ آخر کس طرح ان دینی مطالبات پر عمل کر سکے گا؟ اسی طرح جہاں کوئی منظم معاشرہ اور اس کا عمل اجتماعی نظم

ہی موجود نہ ہو وہاں کون سی چیز ہوگی جو مسلمان سے اسلام کی اجتماعی اور  
 بین الاقوامی اخلاقیات کا مظاہرہ کرا سکے گی؟

زندہ جہاں تک مسلمان کی عام تمدنی اور سماجی زندگی کا تعلق ہے، اس پر تو  
 اس صورت حال کا بڑا ہی گہرا اور غیر معمولی مخالفانہ اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ ایسی  
 حالت میں اس زندگی کے مختلف شعبوں سے اسلام تو شخصیت ہو ہی رہتا ہے  
 ساتھ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں اسلام کی جگہ کفر موجود ہوتا ہے۔ یہ  
 ایک جانی بوجھی بلکہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ ظاہرات ہے کہ مسلمان اگر  
 کسی غار میں جا کر گوشہ نشین نہیں ہو گیا ہے، بلکہ انہی بستیوں اور آبادیوں میں  
 رہتا رہتا ہے تو اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے  
 کہ وہ لازماً ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اور کسی غیر اسلامی  
 نظام کے تحت زندگی گزارنے کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلمان کی  
 زندگی، کم از کم بڑے اجتماعی معاملات میں تو یقیناً، غیر اسلامی خطوط ہی پر  
 بسر ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہنا بھی خلاف واقعہ نہ ہوگا کہ اس کے شخصی قوانین،  
 درپوش لائے کی حرمت بھی پوری طرح برقرار نہ جانے والی نہیں۔

ان سارے پہلوؤں سے، اور اس حد تک، اسلام سے عملی بے تعلق کوئی  
 معمولی بات نہیں ہو سکتی، نہ اس صورت حال کی تعبیر کے لیے "ایک خاص حد  
 تک اسلام سے بے تعلق" اور "اتباع دین کے بھاری نقص" کے لفظوں کو آپ  
 محنت الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ شارع علیہ السلام نے عورتوں کو "ناقصات دین"  
 (نقص اور عورتوں سے دین والیاں) فرمایا ہے، اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ:

جب اسے حیض آتا ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی ہے۔

إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصَلِّ وَلَا تَصُومَ.....

فَذَٰلِكَ نَقُصُّاؤُ دَيْنِيَا (بخاری، کتاب الحيض)

غور کیجئے، اگر ہر ماہ چند روز کی یہ حالت، کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے نہیں رکھ سکتی، اس کے دین کے ناقص ہونے کی دلیل ہے تو پوری پوری زندگیوں کی یہ حالت کہ مسلمان اسلام کے اتنے اہم اور گونا گوں قسم کے احکام پر بالکل عمل نہیں کر سکتے، ان کے دین کا کیا درجہ ٹھیرائے گی؟ خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر کہ عورت کی مذکورہ حالت اس کی ایک طبعی، پیدائشی اور بالکل جبری حالت ہے، جسے پیش نہ آنے دینا، یا پیش آجانے کے بعد اپنی کوششوں سے ختم کر دینا اس کے اختیار سے قطعی باہر ہے، اور اسی وجہ سے اس کے سلسلے میں اس پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں آتی۔

جب کہ اجتماعی زندگی سے الگ یا محروم رہنے والے مسلمانوں کی حالت طبعی اور پیدائشی تو کیا ہوگی، اس طرح کی جبری بھی ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات تو اس کے پیدا کرنے یا باقی رکھنے کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں ایسی شکل میں کیا یہ ممکن ہے کہ اس حالت کی موجودگی میں ان کے دین کو ناقص، نہ کہا جائے؟ اور کیا یہ غلط بات ہوگی کہ انہیں ان احکام دین کی حد تک، جن پر وہ غیر اجتماعی اور غیر منظم زندگی بسر کرنے کے باعث عمل نہیں کر سکتے، دین سے بے تعلق، قرار دیا جائے؟ انصاف تو یہ فیصلہ دینے پر مہربان ہے کہ ان کے دین کو ناقص ہی نہیں بلکہ ناقص تر قرار دیا

جائے، اور انہیں "ایک خاص خد تک دین سے بے تعلق" ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں قابل مواخذہ بھی سمجھا جائے۔

### ۳) دینی حس کا پیہم زوال

غیر اجتماعی زندگی میں تیسری آفت یہ آتی ہے کہ دینی حس اور ایمانی حمیت پر باطل مسلسل چوٹیں لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے بے جان کر کے رکھ دیتا ہے۔ باطل کو یہ بھرپور موقع اس اقتدار کی بدولت مل جاتا ہے جو اسے اسلامی اجتماعیت سے محروم مسلمانوں پر حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا، اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت اور اجتماعی نظم کے موجود نہ ہونے کے لازمی معنی بالعموم یہی ہوتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی ایک غیر اسلامی نظام کے تحت بسر ہو رہی ہے، یعنی ایک ایسے نظام کے تحت، جس میں زندگی کا عام اجتماعی کاروبار کا سرانہ بنیادوں پر چلتا ہو، جس میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اور اصل قانون ساز اللہ تعالیٰ کے بجائے کوئی اور ہو، جس میں انسانی خلافت کا تصور بنیادی طور پر ایک غیر آئینی تصور ہو، جس میں اخلاق کی اجتماعی تدریس کتاب الہی اور سنت رسول سے نہیں بلکہ کسی اور ہی سرچشمے سے اخذ کی گئی ہوں، جس میں وسیع تر اجتماعی معاملات کے اندر اسلام کو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کا کوئی حق نہ ہو، جس میں معروفات اور منکرات کے تعین میں شرعی لہجہ کا فیصلہ کوئی آخری فیصلہ نہ ہو، اور اسلام کے کتنے ہی معروف منکر اور منکر معروف بنادیتے گئے ہوں، جس میں انسانی اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادیں عدل و انصاف اور تعاون علی البر کے اسلامی اصولوں کے بجائے کسی قوم، کسی نسل، کسی وطن، کسی طبقے یا کسی ازم، کے مادی





نظام کو اپنے اوپر مسلط کرانے کی اس وقت تو اہل ایمان کو ایسا معلوم ہوگا جیسے بستر  
انگڑوں کا الاؤ بن گئے ہیں جیسے ان کے اگے، پیچھے، دائیں، بائیں، ہر طرف آبلے  
ڈال دینے والی گیس کے بم پر بم پھٹ رہے ہیں۔ اس صورت حال سے گھبرا کر وہ  
دور نکل بھاگنے کے لیے چاروں طرف اپنی پریشان نگاہیں دوڑائیں گے، جوش  
اضطراب میں ہاتھ پاؤں بھی ہلایں گے۔ مگر ظاہر ہے کہ جو نظام اور جو اقتدار زندگی  
کے اجتماعی درو نسبت پر قابض ہو چکا ہوگا، وہ اس ذہنی بغاوت سے متاثر ہو کر  
اپنا قبضہ اٹھالینے سے رہا۔ وہ تو پوری مضبوطی اور عزم کے ساتھ بدستور اپنا سکہ چلاتا  
رہے گا، اور ملت کے مسلمان ہونے کے باوجود اس پر ان اقدار، ان مصالح، ان  
افکار، ان نظریات اور ان احکام و قوانین کے تحت حکومت کرتا رہے گا جن کا کہ اس  
کی نامسلمان فطرت اور اس کی سیاسی مصلحت تقاضا کرے گی۔ آخر کار آنکھیں آہستہ  
آہستہ اس صورت حال کی عادی ہونے لگیں گی، جذبات کی بے قراری اور ذہنی بغاوت  
پر تعکاؤٹ اور پھرافسردگی طاری ہونے لگے گی، اضطراب، احساسِ غم کی سطح پر آ  
جائے گا، اور بغاوت کی آگ حسرت کی راہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر یہ دور بھی  
ختم ہوگا، اور اب دینی حمیت سے دل خالی ہونے شروع ہوں گے۔ غیر اسلام سے  
طبیعتیں مانوس ہونے لگیں گی۔ ذہنی اور جذباتی لطائف صلح اور رواداری غلے بدلنے  
لگے گی، اور غیر اسلام سے مسلمان کی کوئی عملی مخالفت باقی نہ رہ جائے گی۔ ہوتے  
ہوتے چوتھا اور آخری دور آجائے گا، جب وہ غیر اسلام خوب بن جائے گا جو کہیں  
انتہائی ناخوب تھا۔ مسلمان اس نظام اور اقتدار کو، جو اس کے دین کو دین نکال دے  
چکا ہے یا کم سے کم یہ کہ جس نے اسے خانہ قید کر رکھا ہے، اسلامیان سے گاہیں

کی بارگاہ میں عزت کا طالب ہوگا، اس کی چاکری میں فخر محسوس کرنے کا۔ اس کی  
 تہیہ برداری کا حق حاصل کرنے کے لیے زور پڑے گا۔ وہ "مسلمان" ہوگا، مگر غیر  
 اسلامی نظام کے خلاف زبان سے بھی کوئی اظہارِ ناگواری نہ کرے گا۔ انسان اللہ  
 تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کے احکام و مرضیات کے تحت ہی وہ اس دنیا کا نظم  
 چلانے کا ذمہ دار ہے، وہی اس کا مقتدرِ اعلیٰ اور اصل قانون ساز ہے، اسلام  
 ایک مکمل نظامِ حیات ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اسی نظام کی پیروی  
 پر موقوف ہے۔ یہ اور اسی طرح کے دوسرے بہت سے اونچے  
 حقائقِ مذہبی، اجتماعات میں زیرِ داستان کے طور پر بیان ہوتے رہیں گے۔  
 مگر دنیا کے وسیع عملی میدان میں ملت اپنی زندگی کی گاڑی اس 'ازم' کی پٹری پر رواں  
 دواں چلاتی رہے گی جسے ملک کے غیر اسلامی نظام اور کافر اقتدار نے اپنا 'دین'  
 بنا رکھا ہوگا۔ ملت کی موجودہ حالت اس حقیقت کا زندہ ثبوت بنی ہوئی ہمارے  
 سامنے موجود ہی ہے، جس کے ہوتے ہوتے کسی نظری اور منطقی دلیل کی ضرورت  
 ہی کیا رہ جاتی ہے۔ واقعات کی اس واضح ترین گواہی کو ہوش کے کانوں سے  
 سننے اور اندازہ کیجیے کہ باطل اقتدار اور غیر اسلامی نظام، ایمانی حمیت اور دینی حس  
 پر کس طرح کی چوٹیں لگا سکتا ہے۔ اور چوٹیں لگاتے لگاتے اس پر کیسی سکتے کی،  
 بلکہ موت تک کی حالت طاری کر دیا کرتا ہے۔

اسلامی اجتماعیت سے محروم زندگی جس مسلمان کے دین و ایمان پر ایسے سخت  
 حملے کرتی اور انہیں ایسے عظیم خطرات میں ڈال دیتی ہے، سوچیے بھلا وہ کب  
 تک اور کس حد تک سچا مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ شیطان

کی ہزار گوششوں پر اس کی یہ ایک گوشش بھاری ہے کہ مسلمان کو اجتماعی زندگی سے محروم کر دے۔ ایک ایک مسلمان کو اگر وہ الگ الگ شکار کرنا چاہے گا تو اسے اتنے ہی گڑھے کھودنے پڑیں گے جتنے کہ مسلمان ہوں گے۔ لیکن اگر وہ انتشار اور غیر اجتماعی زندگی کا گڑھا کھود لیتا ہے تو یہ اکیلا ایک ہی گڑھا ان کی بھاری اکثریت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اگر جماعت سے الگ یا محروم رہنے والوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا بے بس اور آسان شکار فرمایا ہے تو یہ ایک ایسی تعبیر ہے جس سے بہتر تعبیر اس صورت حال کی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔

### اجتماعی زندگی کے بیش بہا اثرات

غیر اجتماعی زندگی تو دین و ایمان کے لیے ایسے شدید خطرات پیدا کر دیتی اور مسلمان کو شیطان کا صید زبوں بنا دیتی ہے، مگر اجتماعی زندگی ان کے لیے کیا ثابت ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنئے،

يَكُنُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ (ترمذی: جلد ۲)

”اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے“

یعنی اجتماعی زندگی ہی سہہ زندگی ہے جس میں مسلمان اللہ کی نوازشوں اور نصرتوں کے فی الواقع سزاوار بنتے ہیں۔

اگر یہاں بھی یہ سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اب یہ ایک غیر ضروری سوال ہوگا۔ کیونکہ غیر اجتماعی زندگی کے عملی نتائج اگر وہ سب کچھ ہیں، جن کا حال ہم ابھی جان چکے ہیں، تو اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ اجتماعی زندگی کے

ثمرات ٹھیک انہی کی مند ہوں گے۔ اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت سے جو معاشرہ بے بہرہ ہوتا ہے وہ اگر غلط افکار و اعمال کو پروان چڑھاتا اور صالح افکار و اعمال پر خزاں کی کیفیت طاری کر دیا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان کے لیے برو تقویٰ کی راہ دشوار سے دشوار ہوتی جاتی ہے، تو وہ معاشرہ، جو اس اجتماعیت سے بہرہ ہوگا، قطعاً ایک مختلف صورت حال کو وجود میں لائے گا، صالح افکار و اعمال کو پروان چڑھائے گا، باطل افکار و اعمال کو پسپے سے روکے گا، نیک روی کی ترغیبیں دیتا رہے گا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے قدم آپ سے آپ نیکی اور خدا ترسی کی طرف اٹھتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر اس معاشرے میں مسلمان اپنے دین کی ناقص پیروی ہی کے لیے مجبور رہتا ہے تو اس میں اسے ایسی کسی کوفت بھری مجبوری سے کوئی سابقہ پیش نہ آئے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر اس کے اندر دینی حس اور ایسانی حینت پر مسلسل ہتھیوڑے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر دین و ایمان کو ایسی کسی جان لیوا آفت کا سامنا بالکل نہ کرنا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ اجتماعی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس کے اندر مسلمان اپنے مولیٰ کی اطاعت و بندگی کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا بھی صرف یہی ہے کہ اس کی طاعت اور بندگی کا حق ادا کیا جائے۔ یہی اس کا مطالبہ ہے، اور اسی میں اس کی رضا ہے۔ اس طرح حقیقت واقعی یہ قرار پاتی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پورا ہونا صحیح جماعتی زندگی پر موقوف ہے۔ پھر یہ جماعتی زندگی ہی، اسے محبوب کیوں نہ ہوگی؟ اور جو زندگی اسے محبوب ہوگی بدیہی بات ہے کہ اس کی رحمتوں، نوازشوں اور نصرتوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صحیح اجتماعی زندگی ہی

میں دین و ایمان کو پوری پوری نشوونما ملتی، اور مسلمان کی دنیوی و اخروی صلاح محفوظ رہتی ہے۔ سوچیے، کتنے بیش قیمت ہیں اجتماعی زندگی کے یہ ثمرات! اور کتنی ضروری ہے اسلام اور اہل اسلام کے لیے یہ اجتماعی زندگی!!

گوشہ نشین بزرگوں کا مسئلہ

اس موقع پر واقعات کی بعض شہادتیں ذہن میں ایک الجھن پیدا کر سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسے بھی دور کر لیا جائے۔

الجھن یہ ہو سکتی ہے کہ کتنے ہی بزرگان دین ہیں، جن کی زندگیاں اس بات کی تائید نہیں کرتیں۔ اس کے بخلاف وہ اس امر کا ثبوت ہتیا کرتی ہیں کہ جماعتی زندگی سے بالکل گٹ کر بھی بندگی اور خدا پرستی کا اونچے سے اونچا مقام حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں نے ایسی ہی زندگی گزار لی، لیکن اس کے باوجود شیطان ان کی طرف رُخ کرنے کی بھی جرأت نہ کر سکا، چہ جائیکہ انہیں شکار کر لیتا۔

اس الجھن کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی کلمیہ ایسا ہوگا جس میں استثناء نہ ہو، جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بات کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے، تو اس کا مطلب عموماً یہ نہیں ہوا کرتا کہ کبھی اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا، بلکہ ایسا صرف غالب صورت حال کے پیش نظر کہا جاتا ہے، اور کہتے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جب یہ فرمایا گیا کہ جماعتی زندگی سے علیحدگی اختیار کرنے والے کو شیطان بڑی آسانی سے شکار کر لیتا ہے، تو یہ دراصل بیان حقائق کے اسی معروف اسلوب میں فرمایا گیا، اور مطلب اس کا یہ

ہے کہ گویا ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں واقعات اس امر کی شہادت دینے کو تیار ہیں کہ بعض افراد جماعتی زندگی چھوڑ کر بھی بڑے خدا ترس اور عابد و زاہد ہو گئے ہیں، وہیں وہ اس حقیقت کی بھی منادی کرتے ہیں کہ ان "بعض" افراد کے مقابلے میں لاکھوں افراد ایسے ہوئے ہیں جو اس جماعتی زندگی سے محروم ہو کر اپنے دین کو ضروری حد میں بھی محفوظ نہ رکھ سکے، اور خدا کے مقابلے میں شیطان سے زیادہ قریب ہو رہے۔ اب مجموعی حیثیت سے دیکھیے کہ نفع اور نقصان کا میزانیہ کیا رہا؟ اور جماعتی زندگی کا وجود اور عدم وجود، دونوں اُمتِ مسلمہ کے حق میں اپنی اپنی جگہ کیا ثابت ہوئے؟

یہاں تک دین کے احکام اور ہدایات کا تعلق ہے، وہ عام انسانیت، عام حالات اور عام حقائق کو پیش نظر رکھ کر دیئے گئے ہیں، نہ کہ مخصوص حالات اور مستثنیٰ افراد کو سامنے رکھ کر۔ اس لیے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا جو حکم اس نے دیا ہے، عام انسانوں کے پیش نظر ہی دیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے جو کچھ فرمایا ہے، عام صورتِ حال کو سامنے رکھ ہی فرمایا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اس نے ایک بات فرمادی ہے تو اب وہ عوام اور خواص سبھی کے لیے واجب التسلیم ہو چکی ہے۔ کیونکہ شریعت کے احکام بلا تفریق سبھی کے لیے ہوتے ہیں، اور کوئی فرد بھی، چاہے وہ کیسے ہی مخصوص زعمانات یا قوتوں کا مالک کیوں نہ ہو، ان کی پیروی کی ذمہ داریوں سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتا۔

پھر یہ اعتراض یا شبہ اصلاً بھی غلط ہے۔ یہ صیح ہے کہ جماعتی زندگی سے کٹ کر بھی لوگوں نے خدا پرستی کے اونچے مقامات حاصل کیے ہیں۔ لیکن یہ بات

جماعتی زندگی کی اہمیت اور افادیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اس شخص سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ یہ لوگ خدا پرستی کے جن اونچے مقامات پر پہنچے تھے، اجتماعی زندگی کے اندر وہ ان سے بھی زیادہ اونچے مقامات پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کے برخلاف امر حق یہ ہے کہ اگر صحیح اجتماعی زندگی کی اعانتیں اور برکتیں بھی ان بزرگوں کے شامل حال رہی ہوتیں تو وہ 'اسلامیت' کے اور زیادہ بلند مقاموں پر فائز ہو گئے ہوتے۔ تنہائی کے گوشوں میں وہ زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے دہے تک پہنچ سکے ہوں گے، لیکن اسلامی اجتماعیت کے ہنگاموں میں رہ کر وہ ابوبکر و عمر ہو گزرے ہوتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی زندگی سے دُور رہ کر ایک شخص چاہے جو کچھ بھی بن جائے، لیکن معیاری طور پر وہ انسان نہیں بن سکتا جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا تاج رکھ کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اور جسے فرشتوں کا بھی مسجود بنایا تھا۔

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# اسلامی اجتماعیت

## مقصد اجتماع

دنیا کا ہر منظم اجتماع اپنا کوئی نہ کوئی متعین مقصد رکھتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ متعین مقاصد ہی اجتماعیتوں اور تنظیموں کو وجود میں لایا کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی اجتماعیت بجائے خود مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ کسی مقصد کے حاصل کرنے کا صورت ذریعہ ہوا کرتی ہے، اور اس کی جو قدر و اہمیت بھی ہوتی ہے۔ اسی مقصد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کسی تنظیم سے پیش نظر مقصد کا حاصل ہونا صحیح معنوں میں متوقع ہو، تب تو اسے جو قدر و اہمیت بھی دی جاتے کم ہے۔ لیکن صورت حال اگر یہ نہ ہو تو چاہے یہ تنظیم سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہی کیوں نہ ہو، ایک حقیر تنگے کے برابر بھی قیمت نہ پاسکے گی۔ یہ بات اگر دوسری تمام اجتماعیتوں اور تنظیموں کے بارے میں ایک مسئلہ حقیقت ہے تو اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کے سلسلے میں محض ایک خیال بن کر نہ رہا رو جائے گی۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس کے معاملے میں اس بدیہی اور مسلمہ اصولی حقیقت اتے

سے اختلاف کیا جاسکے۔ اس لیے عقل کہتی ہے کہ اس نے اپنے پیروں کو جس  
اجتماعیت، جس وحدت اور جس تنظیم کی ہدایت فرمائی ہے، اس سے مراد مطلق  
اجتماعیت، بے قید وحدت اور تنظیم برائے تنظیم ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ  
لازمًا ایک مخصوص قسم کی اجتماعیت، ایک خاص طرز کی وحدت اور ایک با مقصد  
تنظیم ہی ہوگی، یقیناً کوئی نہ کوئی متعین مقصد ہوگا جس کی خاطر ہی لوگوں کو متحد  
اور منظم زندگی بسر کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے، نیز یہی مقصد وہ چیز ہوگی جو مسلمانوں  
کی کسی اجتماعیت اور تنظیم کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اسلامی  
اجتماعیت اور تنظیم ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس مقصد کے حاصل ہونے کا واقعی فریضہ  
منجستہ ہو تو اسے اسلامی اجتماعیت اور اللہ و رسول کی پسندیدہ تنظیم قرار  
پانے کا حق ہوگا، اور دینی حیثیت سے وہ اس اہمیت کی مالک ضرور تسلیم کی  
جانے جس کی نشاندہی پچھلے اور آنے والے صفحات کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت  
واقعی اگر یہ نہ ہوتی، اور مسلمانوں کا یہ تنظیمی قافلہ اس مقصد کی طرف بڑھتا  
دکھائی نہ دیا تو اسے اسلامی اجتماعیت کہلانے کا کوئی حق نہ ہوگا، نہ اسے ان  
احکام دین کی پیروی سمجھا جائے گا جو ملی اجتماعیت اور تنظیم کے بارے میں  
دیتے گئے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس حد سے بھی آگے بڑھا ہوا  
ہو، مسلمانوں کی تنظیم اپنے بنیادی فلسفے اور اپنے فطری مزاج ہی کے اعتبار سے  
سے کچھ ایسی واقع ہوتی ہو کہ اس سے الٹی اسلامی اجتماعیت کے اصل مقصد  
کی راہ بندھتی ہو، اور اس کے ثمرات اس مقصد کے بجائے کسی اور ہی کی  
متابع مطلوب بنتے ہوں، تو یہ اگرچہ مسلمانوں کی تنظیم ہوگی، مگر اسلام کے

حق میں ایک لعنت سے کم نہ ہوگی، اور اس کے بارے میں اس کی خواہش صرف یہ ہو گی کہ اسے توڑ دیا جائے، اس کی موجودہ بنیادیں ڈھادی جائیں، اور اس کی جگہ وہ تنظیم پائی جائے جس سے اس کا مقصد اجتماع پورا ہوتا ہو۔

وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے اسلام نے اپنے پیروؤں کو منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ سوال دراصل یہ سوال ہے کہ خود ان پیروان اسلام کا بحیثیت ایک ملت کے، مقصد وجود اور فریضہ منصبی کیا ہے؟ کیونکہ کسی ملت کا مقصد وجود یا فریضہ منصبی ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے وہ ملت بنتی اور ایک متحد و منظم گروہ کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کا مقصد وجود اور فریضہ منصبی معلوم کر لیجیے، اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کا مقصد واضح ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں مثلث مواقع پر جو کچھ فرمایا ہے، وہ یہ ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ - (بقرہ - ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہتر امت بنایا ہے تاکہ

تم دوسرے تمام لوگوں پر حق کے، شاہد ہو۔“

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَوَاءٌ عَلِيٌّ أَمْ وَآلِ عَدُوِّهِمْ - (آل عمران - ۱۱۰)

”تم ایک بہترین امت ہو، جسے دوسرے سارے انسانوں

کے لیے برپا کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا الَّذِي

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ..... أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ - (شوری: ۱۳)

”اس نے تمہارے لیے وہ دین مقرر فرمایا ہے جس کی تلقین اس

نے نوع کو کی تھی اور جس کی وحی (اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے

تم پر کی ہے..... (اس ہدایت کے ساتھ) کہ تم اس دین کو قائم کرو“

یہ تینوں چیزیں \_\_\_\_\_ شہادتِ حق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر

اور اقامتِ دین \_\_\_\_\_ دراصل ایک ہی معنی و حقیقت کے ترجمان

ہیں، اور ان کا یہ لفظی اختلاف اسی ایک معنی کے تین خاص رُخوں کو نمایاں کرنے کے لیے

ہے۔

قرآن حکیم کے ان بیانیوں سے بالکل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ نہ صرف مقصد

جس کے لیے مسلمان اس زمین پر ایک جماعت کی حیثیت سے موجود، اور ایک

امت کی حیثیت سے مامور ہیں، اللہ کے دین کی اقامت اور شہادت ہے۔ اس

لیے انہی بیانیوں سے بالواسطہ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اسلامی اجتماعیت کا

مقصد اقامتِ دین، امر بالمعروف اور شہادتِ حق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صرف

یہی وہ مراد و مطلوب ہے جس کی خاطر مسلمانوں کو ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے

کی اتنی تاکید و ہدایتیں دی گئی ہیں، اور ان کے اندر اس منظم اجتماعیت کے شعور

کو زندہ و بیدار رکھنے کے لیے اتنے غیر معمولی اہتمامات کیے گئے ہیں۔ اس کے معنی

یہ ہوتے کہ مسلمان کسی اور غرض سے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے، کوئی اور مقصد انہیں

اکٹھا کرنے کا حق بالکل نہیں رکھتا، کسی اور مہم کی خاطر ان کی تنظیم حرکت میں آہی نہیں

سکتی۔ جس طرح یہ اسلامی زندگی نہیں بلکہ جاہلی زندگی ہے کہ مسلمان منتشر اور بن سہری  
 فوج بنے رہیں، اسی طرح یہ بھی سترتا سر جاہلیت ہی ہے کہ وہ دین حق کی علم برداری  
 کے سوا کسی اور غرض سے متحد و منظم ہوں۔ اس لیے ان کی کوئی اجتماعیت اور تنظیم  
 اس مقصد سے جس قدر متعلق اور قریب ہوگی، بس اسی قدر وہ اسلامی ہوگی، اور  
 جس قدر اس سے دور اور بے تعلق ہوگی اس قدر وہ لازماً غیر اسلامی ہوگی۔ حتیٰ کہ  
 اگر اس کی یہ دوری اور بے تعلق بنیادی اور فکری قسم کی ہوتی تو وہ یکسر غیر اسلامی اور  
 خالص جاہلی اجتماعیت ہوگی، وہ اہل ایمان کی کافرانہ تنظیم ہوگی، وہ ایک ایسی  
 جماعت ہوگی جس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہرگز نہ ہوگا۔

### شیرازہ اجتماع

اسلامی اجتماعیت کے مقصد کا یہ تعین اس کے شیرازے کا بھی تعین کر دیتا ہے  
 اگر اس اجتماعیت کا مقصد دیکھ صرف اللہ کے دین کی اقامت اور شہادت ہے،  
 تو یہ اس بات کا بھی فیصلہ ہے کہ اس اجتماع کا مرکز صرف یہی دین، اور صرف یہ دین  
 ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اہل ایمان کو ایک متحد و منظم گروہ بن کر رہنے  
 کی ہدایت دیتے وقت جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ یہ ہیں:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔

(آل عمران - ۱۰۳)

پھر اللہ کی رسی، کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ٹوٹیوں میں

یہ ارشادِ ربانی جس طرح اس باب میں بالکل صریح ہے کہ سارے مسلمانوں کو

باہم جڑا ہوا رہنا چاہیے، اسی طرح اس بارے میں بھی کچھ کم صریح نہیں ہے کہ ان کو جوڑنے والی چیز صرف اللہ کی رسی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن نے اہل ایمان کو جس متحد و منظم اجتماعیت کا حکم دیا تھا اس کے لیے ناگزیر یہ ٹھہرایا تھا کہ اس کی ہر اکائی اپنے دکل، سے صرف اللہ کی کتاب کے رشتے سے، اور محض اس کے دین کی خاطر اگر ملی اور جڑی ہو۔ اس کے سوا اس دکل، کو دکل، بنانے والا، اور اس کے اجزاء کو آپس میں جوڑنے والا کوئی اور رشتہ نہ ہو۔

ہدایت الہی کے اس متن کی شرح معلوم کرنا چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں۔ یہ عمل، جیسا کہ ہر صاحب نظر جانتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا، آخرت یاد دلائی، اور ایک خدا کی بندگی کی دعوت دی۔ پوری زندگی یہی کرتے رہے۔ جو اس دعوت کو مان لیتا وہ اسلامی جماعت و اجتماعیت کا رکن بن جاتا، خواہ اس کی نسلیت، اس کی وطنیت، اس کی رنگت اور اس کی زبان کچھ بھی ہوتی۔ اور جو اسے نہ ماننا وہ اس جماعت کے قریب بھی نہ پٹک پاتا، چاہے وہ قریشی اور ہاشمی ہی کیوں نہ ہوتا۔ جس طرح اس دعوت کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی، جس کی طرف آپ نے کبھی کسی کو بلا یا ہوا، اسی طرح اس رشتے کے سوا اور کوئی رشتہ بھی نہ تھا جس کے ذریعے کسی کو امت مسلمہ سے جوڑنے کی آپ نے کوئی گنجائش رکھی ہو۔ ایسی کسی گنجائش کا کیا سوال، آپ نے تو اس طرح کی اجتماعیتوں اور جتھہ بندیوں کے خلاف انتہائی سخت الفاظ کہے ہیں۔ چنانچہ 'الجماعۃ' یعنی صحیح اسلامی اجتماعیت سے پوری طرح وابستہ رہنے کی تلقین کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے کہ:

وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُحْتِنِ  
جَهَنَّمَ وَإِنْ صَلَّى وَرَعَى آتَتْهُ مُسْلِمَةٌ

(احمد و ترمذی، بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الامارۃ)

”اور جس نے جاہلیت کی پکار پر لوگوں کو بلایا اس کا ٹھکانا جہنم  
ہے، اگرچہ روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا، اور اپنے کو مسلمان سمجھتا

ہو۔“

جاہلیت کے معنی ہیں اسلام کی ضد۔ یہ اتنی ہی واضح حقیقت ہے جتنی  
یہ بات کہ شرک، توحید کی ضد ہے۔ اس لیے ہر وہ پکار جاہلیت کی پکار ہوگی جو  
اسلامی نہ ہو، جس کو قرآن حق کی پکار تسلیم نہ کرتا ہو، جسے رسول خدا کی زبان سے  
کبھی بلند ہوتے نہ سنا گیا ہو، اور جسے اللہ کے دین میں جو اذکار سند حاصل نہ  
ہو۔ اسلام نے ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے، اور غیبر  
جماعتی زندگی سے سخت بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی  
شخص لوگوں کو اس اجتماعی نظم سے آزادی اختیار کر لینے کی طرف بلاتا ہے  
تو یہ ایک کھلا ہوا جاہلی بلاوا ہوگا۔ اسی طرح قرآن نے تمام مسلمانوں کو اللہ کی  
رستی کے شیرازے سے منسلک ہو رہنے کی وصیت فرمائی ہے۔ لہذا اگر  
اس کے بجائے کسی اور رشتے کو مرکز بنا کر انہیں اکٹھے ہونے کی دعوت دی جائے  
گی تو یہ قطعاً ایک جاہلی دعوت ہوگی، خواہ وہ خون کا، وطن کا، زبان کا، رنگ کا، غرض  
کوئی سا بھی رشتہ ہو۔ اس لیے حدیث رسول میں جو ہمیشہ بھری تنبیہ فرمائی گئی ہے  
قدرتی طور پر اس کا دائرہ اطلاق بہت وسیع ہے، آٹھویں وسیع جتنا کہ جاہلیت کا

دائرہ وسیع ہے، اور اس دائرے میں جہاں دوسری چیزیں داخل ہیں وہاں یہ بات بھی داخل ہی ہے، اور شاید سب سے نمایاں طور پر داخل ہے کہ مسلمانوں کو کسی ایسے دُکلمے پر جمع ہونے کی، کسی ایسے رشتے سے آئندہ ہٹنے کی، اور کسی ایسے مرکز پر اکٹھے ہو جانے کی دعوت دی جائے جو اسلامی نہ ہو، یعنی اسلام نے اسے نوعِ انسانی کے درمیان امتیاز کی کوئی بنیادی اور حقیقی وجہ نہ تسلیم کیا ہو۔ ایک اور موقع پر اسی حقیقت کے سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں :-

كَيْسَ مِمَّا مَنَّا دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةٍ - (ابوداؤد، کتاب الادب)

”نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے لوگوں کو کسی عصبیت کی طرف

بلایا۔“

کسی عصبیت کی طرف بلایا، یعنی اسلام کی خالص عقلی اور اعتقادی بنائے اجتماع کو چھوڑ کر مسلمانوں کو اُن نسلی یا وطنی، لسانی یا کوئی تعصبات میں سے کسی تعصب پر جمع کرنے کی کوشش کی جن پر خدا فراموش اور مادیت کی غلام تو ہیں بالعموم جمع ہوا کرتی ہیں۔

یہ ارشادِ نبویؐ بھی اس امر کی واضح شہادت ہے کہ اسلام اور کسی عصبیت کی طرف دعوت، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔

غرض جاہلی پکار، اور عصبیتی دعوت، ایک نجاست ہے، اور اسلام کا ذوقِ لطیف اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ اغوائے شیطانی کے تحت کسی مسلمان کی زبان سے اس طرح کی کوئی



بات نکل گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوری نوٹس لیا، اور ذہنوں کو اس گندگی کے اثرات سے پاک کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ غزوہ نبی مصطفیٰ کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کی کشتی پر لانت مار دی۔ انصاری نے ”يَا لَلْأَنْصَارِ“ (دوڑ والے انصار!) کی صدائے فریاد بلند کی۔ جو اب میں مہاجر نے بھی ”يَا لَلْمُهَاجِرِينَ“ (پہنچائے مہاجر!) کا نعرہ لگایا۔ آپ کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے تو فرمایا:

مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ؟ دَعْوَاهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

(بخاری جلد دوم، کتاب التفسیر)

”یہ کیا جاہلیت کی پکار تھی؟ دُور ہو اس سے، کیونکہ یہ بڑی

گندی چیز ہے۔“

ظاہر ہے کہ ”يَا لَلْأَنْصَارِ“ اور ”يَا لَلْمُهَاجِرِينَ“ کے الفاظ جو دراصل

نسلی اور وطنی نعرے تھے، صرف ایک وقتی جھگڑے کے سلسلے میں زبانوں سے

اچانک نکل آتے تھے۔ کسی سوچے سمجھے فلسفے اور نظریے کے تحت کسی مستقل

جماعت سازی کی دعوت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی رسول خدا کو یہ الفاظ اتنے ناگوار

گزرے گو یا یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ غلاظت کے کپڑے اور عفونت کے بھسکے

ہیں۔ جنہیں کسی مسلمان کے منہ سے ہرگز نہ نکلنا چاہیے، اور جنہیں ایمانی ذوق کی

پاکیزگی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔

اگر ”جاہلیت“ اور ”عصبیت“ کی طرف بلانے والے کا وجود اسلامی معاشرے

کے لیے بالکل ہیچ ہے اور وہ جہنم کا ایندھن ہے تو وہ شخص بھی، جو اس بلا و بے پر

لیکھ کہتا ہے، ملت کا سرمایہ اور جنت کا مہمان نہیں بن سکتا۔ عقل اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کی بھی وہی حیثیت ہو جو اس جاہلیت اور عصبیت کے داعی کی بتائی گئی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ”کَيْسٍ مِّنَّا مَنِّ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ“ فرمایا ہے، وہیں اس فیصلے کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ:

وَكَيْسٍ مِّنَّا مَنِّ قَاتِلِ عَصَبِيَّةٍ وَكَيْسٍ مِّنَّا مَنِّ مَاتِ

عَلَى عَصَبِيَّةٍ۔

• اور نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے کسی عصبیت کے تحت جنگ کی، اور نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے کسی عصبیت کی خاطر جان دی۔“

غرض دین کے سوا، دنیا کا کوئی تعلق، کوئی اشتراک اور کوئی رشتہ ایسا نہیں جس پر مسلمان بحیثیت مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہوں، اور جو اسلامی اجتماعیت کا شیرازہ بن سکتا ہو۔ ایسی کسی چیز پر اگر مسلمان اکٹھے ہوں تو اس اجتماع کو جو چاہے کہہ لیجیے لیکن اسلامی اجتماع ہرگز نہ کہہ سکیں گے۔ مذکورہ بالا نصوص سے یہ حقیقت اٹینہ کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔

طریق اجتماع

اب اس بحث کا صرف ایک گوشہ اور باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ عملاً یہ اجتماعیت وجود میں کس طرح آتی ہے؟ ویسے تو گزشتہ دو نونوں امور کی وضاحت کے بعد اس سوال کا جواب معلوم کر لینے کے لیے قیاس اور اندازہ بھی بالکل کافی ہے، مگر مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر مناسب یہی ہوگا کہ اس بار سے میں بھی دین کی صریح

ہدایتوں ہی پر اپنے اطمینان کی بنیاد رکھی جاتے، مانہ کہ صرف قیاس اور اندازے پر۔ اس غرض کے لیے جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ اس نے سورۃ آل عمران میں مسلمانوں کو ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کی جو جامع ہدایت دی ہے اس کا آغاز ان لفظوں سے ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران: ۱۰۲)

”اے ایمان والو! اللہ کا ٹھیک ٹھیک تقویٰ اختیار کرو، اور

تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے طاعت گزار ہو۔“

اس کے بعد اور ”کہہ کر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وہ بات فرمائی گئی ہے جس کا حوالہ پھلی بحث میں ابھی گزر چکا ہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہوا کہ ان لفظوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ اس ہدایت کی پہلی شق ہے اور بعد کے لفظوں میں اس کی جو دوسری شق ارشاد ہوتی ہے اس کا وجود اسی پہلی کے وجود پر منحصر ہے۔ یعنی جس طرح اسلامی اجتماعیت ظہور میں نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ کا دین ہی اس کا شیرازہ نہ ہو، اسی طرح دین مسلمانوں کی اجتماعیت کا شیرازہ ہرگز نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ فی الواقع ایمان والے نہ ہوں، تقویٰ ان کے سینوں میں گھر نہ کیے ہوتے ہو، اور اسلام اللہ کی اطاعت گزاری، میں وہ سرگرم عمل نہ ہوں۔ اس اجتماعیت کا جزو بننے، جزو بنانے اور جزو باقی رہنے کی یہ، اور صرف یہی لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص اس جماعت کا رکن بننے کا اہل نہیں ہو سکتا، نہ اسے اس کا رکن بنایا جا سکتا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ صفتیں جتنی ہی سچتہ ہوں گی

وہ اس جماعت کا اتنا ہی اچھا اور قابلِ اعتماد جزو ہوگا، اور اسی قدر زیادہ صحیح طریقے سے اس کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ اور جو ان باتوں میں جتنا ہی خام ہوگا جماعت کے ساتھ اس کی وابستگی بھی اتنی ہی ناپائیدار اور ناقابلِ اعتماد ہوگی۔

پھر اس امر واقعی کا تقاضا جس طرح یہ ہے کہ صرف انہی لوگوں کو اس جماعت کا رکن مانا جاتے جو اللہ کے دین پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی پیروی کا عہد کریں، اسی طرح اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کے رکن بن چکے ہوں ان کے اندر ان صفات کے پروان چڑھانے اور پروان چڑھاتے رہنے کا پورا پورا اہتمام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جس ہدایت کا ہم اس وقت جائزہ لے رہے ہیں وہ صرف اتنے ہی لفظوں پر ختم نہیں ہو گئی ہے جن کے حوالے اوپر آچکے ہیں، بلکہ آگے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

(آل عمران: ۱۰۴)

• اور چاہیے کہ تم وہ گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلاتا، نیکی کا حکم

دیتا اور بُرائی سے روکتا ہے۔“

یہ دراصل اس ہدایت کی تیسری اور آخری شق ہے، جو ایک پہلو سے پہلی شق کا تکملہ بھی ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ ’جبل اللہ‘ کے مرکز پر اکٹھے ہونے سے اہل ایمان کی جو جماعت وجود میں آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دائرے کے باہر بھی اور اس کے اندر بھی ’بچر کی دعوت‘ دیتی رہے، معروف کا

امر کرتی رہے، اور جہاں بھی ایمان، اسلام اور تقویٰ کے تقاضوں کو پامال ہونے دیکھیے  
 روک بن کر سامنے کھڑی ہو جائے۔ صرف اسی شکل میں اس بات کی توقع رکھی جاسکتی  
 ہے کہ اس جماعت کے افراد ان صفتوں کے فی الواقع حامل باقی رہیں گے جن کا پایا  
 جانا اس جماعت کی رکنیت کی بنیادی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ  
 علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض تزکیہ، بھی تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ  
 کی طرف سے جس طرح اس بات کے ذمہ دار بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو دین حق کی  
 دعوت دیں اور جو افراد اسے قبول کر لیں انہیں اللہ کی آیتیں سنائیں، کتاب احکام  
 الہی کی تعلیم دیں، اور حکمت، (رُوحِ دین) سکھائیں (يَتْلُو عَلَيْهَا آيَاتِكَ  
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) اسی طرح اس بات کے بھی ذمہ دار بنائے  
 گئے تھے کہ اس دعوت کے قبول کر لینے والوں کے علم اور عمل اور اخلاق میں جو  
 خامیاں پائیں ان کی اصلاح کرتے رہیں، (وَيُذَكِّرُهُمْ) بقدرہ (۱۲۹) جو کچھ  
 آپ کے فرائض منصبی میں داخل تھا، ممکن نہیں کہ آپ کا عمل ذرہ برابر  
 بھی اس سے مختلف ہوتا۔ چنانچہ تاریخ کی پیشانی پر ہر شخص اس ابھری ہوئی  
 حقیقت کو نمایاں دیکھ رہا ہے کہ اُمتِ مسلمہ کی تشکیل کے سلسلے میں آپ نہ  
 تو اس سے کم کسی بات پر راضی ہوتے، نہ اس سے زیادہ کسی چیز کے طالب بنتے  
 آپ اللہ کے بندوں کو اسی کی بندگی کی طرف بلاتے۔ جو لوگ اس دعوت پر لبیک  
 کہتے صرف انہی کو اُمت کا جزو بناتے۔ اور جن لوگوں کو اُمت کا جزو بنا سکتے  
 انہیں اپنے دامنِ تربیت میں لے لیتے۔ یعنی ان کے اندر ایمان، اسلام اور  
 تقویٰ کا جو ہر پروان چڑھاتے رہتے۔ یہی سب کا سب وہ کارِ نبوت تھا

جس کے نتیجے میں اسلامی اجتماعیت اور اُمرتِ مسلمہ وجود میں آسکی۔

---

# اسلامی اجتماعیت کی مسیت کاملہ

(دیاستی نظام)

حکومتی نظام کی ناگزیر ضرورت

اجتماعیت کا نقطہ کمال اور اس کی آخری منزل ایک حکومتی نظام کا قیام ہے۔ یہ نظام بجاتے خود تو مطلوب نہیں ہوتا، لیکن عملی طور پر انسانی معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت بہر حال ہے۔ کیونکہ جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ نوع انسانی کے افراد اپنی فطری طلب کی بنا پر اور اپنی فطری ضرورت کے تحت ایک ساتھ اکٹھے ہو کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہی ہے کہ ان کا یہ اجتماعی گزر بسر کچھ ایسے مسائل بھی پیدا کر دیتا ہے جن کا حل ضروری ہوتا ہے، اتنا ہی ضروری جتنا کہ بچے کے لیے ماں کی گود اور باپ کا سایہ ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مسائل ایک طرف تو مستقلاً موجود رہتے ہیں، دوسری طرف انتہائی اہم بھی ہوتے ہیں۔ مستقلاً موجود اس لیے رہتے ہیں کہ ان کا سرچشمہ

کہیں خارج میں نہیں ہوتا کہ وہ کبھی پیدا ہوں تو کبھی پیدا نہ بھی ہوں، بلکہ انسان کے اپنے اندرون ہی میں ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس کی اپنی جبلت ہی ہوتی ہے جو انہیں حسم دیتی ہے۔ اس لیے جب تک وہ اپنی جبلت سے بلند اور آزاد نہیں ہو جاتا، جو کم از کم ننانوے فی صد افراد کی حد تک تو قطعاً ناممکن ہے، یہ مسائل لازماً پیدا ہوں گے، اور مستقلاً موجود رہیں گے۔ انتہائی اہم، اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اجتماعیت کی غایت ہی فوت ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس کے عملی نتائج بالکل اُلٹے نکلنے لگتے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کے اندر جہاں خیر کی قوتیں موجود ہیں، وہیں پہلو بہ پہلو شر کی قوتیں بھی کار فرما ہیں۔ نوعِ انسانی کے کردار کی پوری تاریخ اسی بات کی گواہی دیتی ہے، اور قرآن حکیم کا صاف و صریح اعلان بھی یہی ہے، جس نے فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں تقویٰ اور فجور، دونوں کا الہام کر رکھا ہے" "فَاذْكُرْهَا فُجُورًا هَا وَتَقْوَاهَا" اس امر واقعی کی موجودگی میں اور اپنی اس جبلت کے ساتھ جب بہت سے انسان اکٹھے ہو کر رہیں گے تو یقیناً وہی کچھ ہو گا جس کا ہم ہر لمحہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف اگر دوسروں کے ساتھ انصاف پسندی، خیر خواہی، ہمدردی اور ایثار کے رویے اختیار کیے جا رہے ہوں گے تو دوسری طرف افراد کی خواہشوں میں ٹکراؤ بھی ہو گا، مفادات میں کشمکش پیاہو گی، خود غرضیوں کا زور ہو گا، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی خلاف ورزیاں ہوں گی، حقوق پر ٹوکے پڑیں گے، اور جان و مال، عزت و اپرو، کسی چیز کی امان باقی نہ رہ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اجتماعیت کو انسان نے اپنے



دل کا سکون جان کر اور اپنی جائے پناہ سمجھ کر اپنا یا ہو گا وہ اس کے لیے جان کا عذاب ثابت ہوگی۔ ایسی حالت میں اس کے لیے منطقی طور پر وہی چارہ کار ہو سکتے ہیں :-

۱۔ یا تو وہ اس اجتماعیت ہی سے توبہ کر لے۔

۲۔ یا پھر ان مشکلات کا کوئی حل ڈھونڈے۔

پہلی راہ وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ تو اس کے فطری جذبات ہی اس

کی اجازت دیں گے، نہ اس کی معاشی اور دفاعی مصلحتیں ہی اسے ایسا کرنے

دیں گی۔ اس لیے عملاً اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ

جاتا کہ اس کے پاس ان مستقل اور انتہائی اہم مسائل کا کوئی مستقل اور موثر حل بھی

ہو، دوسرے لفظوں میں یہ کہ کوئی ایسا انتظام ہو جو خواہشوں کے ٹکراؤ اور

مفادوں کی کشمکش کو قابو میں رکھے، کوئی ایسی طاقت ہو جو ظلم پر آمادہ ہاتھوں

کو پکڑ لے، کمزوروں کو محفوظ رکھے، مظلوموں کی فہر یا درسی کرے، اور

حقوق واپس دلائے۔ بغیر کسی بحث اور دلیل کے کہا جاسکتا ہے کہ حکومت

اسی انتظام اور اسی طاقت کا دوسرا نام ہے۔ یعنی یہ صرف حکومتی نظام ہی

ہے جو کسی اجتماع کے اندر امن و انصاف کی فضا قائم کر سکتا اور برقرار رکھ

سکتا ہے۔ یہ ایک صاف اور فطری حقیقت ہے، اور اس کا انکار اس وقت

تک نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ انسانی جبلت کے روشن ترین حقائق کی طرف

سے آنکھیں نہ بند کر لی جائیں۔ ابن خلدون نے کوئی مبالغہ نہیں کیا تھا جب یہ

کہا تھا کہ انسان جس طرح فطری طور پر اجتماعیت پسند واقع ہوا ہے اسی

طرح عین اپنی فطرت ہی کی بنا پر ایک ایسے "وازع" اور "حاکم" کا ضرورت مند بھی ہے جو اجتماع کے مختلف افراد کو ایک دوسرے کے خلاف دست درازیاں کرنے سے روکے۔

پھر یہ حکومتی نظام کسی اجتماع اور معاشرے کی صرف داخلی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی خارجی ضرورت بھی ہے۔ اس کے بغیر وہ اپنے وجود اور اپنے مفادات کی ٹھیک ٹھیک حفاظت بالکل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسانی جبلت کی کمزوریاں جس طرح ایک اجتماعی وحدت کے افراد کو ایک دوسرے کے خلاف آمادہ ظلم کرتی رہتی ہیں، اسی طرح مختلف اجتماعی وحدتوں اور قوموں کو بھی آپس میں ٹکرایا کرتی ہیں، اور کوئی قوم اپنے خلاف جارحانہ اقدامات کی طرف سے کبھی مطمئن نہیں رہتی۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے اپنے دفاع کا انتظام رکھنا اس کا سب سے پہلا نہیں تو ایک اہم ترین فریضہ ضرور ہی ہوگا۔ یہ تو صحیح ہے کہ ضرورت پڑ جانے پر دفاع کا یہ فرض اس اجتماع کے افراد ہی انجام دیں گے، لیکن اگر اس سلسلے میں انہیں اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے انفرادی فیصلوں پر چھوڑ دیا گیا کہ جو شخص جب چاہے اور جس طرح مناسب سمجھے اپنے اس فرض کو انجام دے، تو کامیابی کی توقع رکھنا عبث ہی ہوگا۔ کسی بن سری فوج نے آج تک کسی منظم حملے کا مقابلہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے افراد اپنی اپنی جگہ چاہے کتنے ہی فرض شناس، باجمیت اور جاں فروش کیوں نہ ہوں، اگر وہ کسی نظام امر و طاعت کے تحت نہ ہوں گے تو ہونے والے حملوں کا موثر دفاع ہرگز نہ کر سکیں گے۔ دوسرے لفظوں

میں گویا حقیقت وہی نکلی کہ ہر اجتماع اپنے دفاع کے لیے ایک حکومتی نظم و نسق کا محتاج ہے۔ یاد ہوگا کہ یہ دفاعی مصلحت اور ضرورت بھی انہی بنیادی اسباب میں سے ایک ہے جو انسان کے لیے اجتماعیت کو لازم ٹھیراتے ہیں۔ اس لیے اس احتیاج کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کا قیام خود اجتماعیت کے اپنے مقصد وجود کی خاطر بھی ضروری ہے۔

## اسلام اور نظام حکومت

مسلم معاشرہ بھی انسانی معاشرہ ہی ہوتا ہے، اور انہی انسانوں سے بنتا ہے جن کے اندر خیر اور شر دونوں کی قوتیں کام کیا کرتی ہیں، اور جن کے دلوں میں فحور اور تقویٰ دونوں ہی کا "الہام" فرمایا گیا ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ شر اور فحور کے اثر سے بالکل پاک رہے۔ کیونکہ اپنی تمام تر خیر پسندیوں اور تقویٰ شعاریوں کے باوجود مسلمان بھی انسان ہی رہتے ہیں، مافوق الانسان نہیں ہو جاتے۔ اس لیے ان کے معاشرے میں بھی انسانی جبلت کی کمزوریاں ہمیشہ پائی جاسکتی ہیں، ہمیشہ پائی گئی ہیں، اور ہمیشہ پائی جاتی رہیں گی۔ اسلامی شریعت میں حدود اور تعزیرات کی جو ایک طویل نہر مدت موجود ہے اور فصلی مقدمات کے بارے میں جو مفصل ہدایتیں پائی جاتی ہیں وہ اس بات کی ناطق دلیل ہیں کہ خود اسلام بھی اپنے پیروؤں کے بارے میں یہ تصور نہیں رکھتا کہ بدی اور ظلم کا ان کے قریب سے گزر نہ ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں گے۔ بلکہ وہ انہیں ٹھیک وہی انسان سمجھتا ہے جس کی جبلت خیر کے ساتھ ساتھ شر سے بھی وابستگی رکھتی ہے، اور جس سے ہمیشہ ہر غلطی صادر ہو

سکتی ہے۔ اس لیے جس طرح دوسرے معاشروں کو حکومتی ادارے اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنے افراد کے درمیان امن و انصاف قائم رکھ سکیں، ٹھیک اسی طرح یہ اسلامی معاشرہ بھی اس نظام سے بے نیاز نہ رہ سکے گا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس کرے گا۔ کیونکہ انسان کے جانی اور مالی حقوق کو جو اہمیت اور حرمت اسلام نے عطا کر رکھی ہے، وہ کہیں اور شاید ہی پائی جاتی ہوگی۔

اب جہاں تک دفاعی ضرورت کا تعلق ہے، مسلم معاشرے کو یہ ضرورت بھی ٹھیک اسی طرح لاحق رہے گی جس طرح کہ کسی اور معاشرے کو ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں جب تک غیر اسلام باقی ہے، مسلم معاشرے کے خلاف اقدامات کا اندیشہ ہر آن لگا رہے گا، اور زہرہ کر عملی صورت بھی اختیار کرتا رہے گا۔ اس لیے اسے اپنی مؤثر حفاظت اور کامیاب مدافعت کے لیے بھی ایک حکومتی ادارے کا قائم رکھنا از بس ضروری ہے۔

غرض جس پہلو سے دیکھیے، یہ معاشرہ بھی ایک حکومتی ادارے کی ضرورت میں کسی سے کم نہیں ہے۔ اور اس کا قیام اس کی بھی ایک فطری طلب اور ناگزیر ضرورت ہی ہے۔

### نظامِ خلافت کا شرعی وجوب

اس بحث سے مسلم معاشرے کے لیے ایک حکومتی ادارے کی ضرورت اگرچہ پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد تمام تر عقلی اور فکری ہے، حالانکہ گفتگو کسی انسانی نظام فکر کے بارے میں نہیں بلکہ دینی اور اسلامی

تصویرات کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں شریعت کی اپنی وضاحت بھی معلوم کر لی جائے، اور فیصلہ کا اصل انحصار اسی پر رکھا جائے۔ ورنہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے خود اسلام نے مسلم معاشرے کو اس نقطہ نظر سے نہ دیکھا ہو جسے بنیاد بنا کر اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی ہے۔ اس غرض سے جب آپ شریعت کی طرف رجوع کریں گے تو پائیں گے کہ ایک حکومتی ادارے کے قیام کے متعلق قرآن اور حدیث کی ہدایتیں، اسوہ رسولؐ اور اسوہ صحابہ کی شہادتیں، اور علمائے اسلام کی صراحتیں، سب کچھ موجود ہیں۔ چنانچہ ان کے حکم و نہی کے تحت حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔

دراں جہاں تک قرآن حکیم کا تعلق ہے، اس کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو اس نے مسلمانوں کو اپنے 'اولی الامر' یعنی امراء و حکام کی اطاعت کا حکم دے رکھا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ (النساء: ۵۹)

دوسری طرف ان پر ایسے بہت سے قوانین کے نفاذ کی ذمہ داری ڈال رکھی ہے جن کو ایک حکومتی ادارے کے بغیر نافذ کیا ہی نہیں جاسکتا، مثلاً قاتل کو موت کی سزا دینا، چور کا ہاتھ کاٹ لینا، زانی کو سنگسار کرنا یا تازیانے لگانا وغیرہ۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ اس امر واقعی کا اعلان ہیں کہ قرآن کے نزدیک مسلم معاشرہ قطعی طور پر ایک باحکومت معاشرہ ہے، وہ ایک حکومتی نظام کے تصور کے بغیر مسلم معاشرے کا کوئی تصور نہیں رکھتا، یا کم از کم یہ کہ رکھنا نہیں چاہتا۔ بلاشبہ

وہ اس طرح کے الفاظ تو نہیں استعمال کرتا کہ اسے اہل ایمان تم اپنا ایک حکومتی نظام قائم کرو اور قائم رکھو۔ مگر اس کی وجہ اس ایک بات کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایسا کرنا بالکل غیر ضروری تھا۔ ایک بجائے خود واضح اور طے شدہ حقیقت کے بارے میں خواہ مخواہ کا اعلان و اظہار تھا۔ آخر جہاں دھوپ اور نمازت کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں سورج کے وجود کی مباحث کا کیا سوال باقی رہ جاتا ہے؟ مسلمانوں سے اپنے امراء و حکام کی اطاعت کا مطالبہ کرنا اور انہیں مجرموں کے خلاف ایک حکومت کے سے اقدامات کا ذمہ دار ٹھہرانا اپنی جگہ اس بات کی خود ہی سب سے بڑی مباحث ہے کہ وہ ایک حکومتی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہی ہیں، یا یہ کہ انہیں ایسا ہونا ہی چاہیے۔ چنانچہ امام غسٹر الدین رازی ان آیتوں میں سے، جن میں مسلمانوں پر ایک حکومت کے سے اقدامات کی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، ایک آیت:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما۔ (المائدہ: ۳۸)

کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: **واجب علیہم ان ینصبوا لانفسہم اماما معینا والدلیل علیہ انہ تعالیٰ اوجب بہذا الآیۃ اقامۃ الحد علی السراق والزنا فلا بد من شخص ینصرون معینا**۔ **بہذا الخطاب واجبت الامۃ علی انہ کیس**

لَا خَادِرَ عَلَيْهِمْ أَعْيُنُهُمْ لِحُدُودِهِمْ عَلَى الْجَنَّةِ بَلْ أَجْمَعُوا  
 عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْأَحْرَارِ الْجَنَّةِ  
 إِلَّا لِأَمَامٍ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا التَّكْلِيفُ تَكْلِيفًا جَازِمًا وَلَوْ  
 يُمْكِنُ الْخُرُوجُ عَنْ عَهْدَةِ هَذَا التَّكْلِيفِ إِعْنَدَ  
 وَجُودِ الْأَمَامِ وَمَا لَا يَتَأْتِي الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ وَكَانَ  
 مَقْدُورًا لِلْمَطْلُوفِ فَهُوَ وَاجِبٌ فَلَزِمَ الْقَطْعُ بِوَجُوبِ  
 نَصْبِ الْأَمَامِ حِينَئِذٍ -

(تفسیر کبیر، جلد ۳ - صفحہ ۴۱۵)

”علمائے متکلمین نے اس آیت کو اس بات کا ثبوت قرار  
 دیا ہے کہ امت کے لیے اپنا ایک متعین امام (حکمران) مقرر کر  
 لینا واجب ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس  
 آیت کے ذریعہ چوروں اور زانیوں پر حد جاری کرنا واجب ٹھہرایا  
 ہے۔ اس لیے ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو اس  
 فرمانِ خداوندی کا راست مخاطب (اور اس کی تعمیل کا ذمہ دار) ہو۔  
 اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عام افراد و اشخاص کو مجرموں  
 پر حدیں جاری کر دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک آزاد  
 مجرموں کا تعلق ہے، ان پر حد جاری کرنے کے بارے میں تو اس  
 بات پر اجماع ہے کہ امام کے سوا اور کسی کے لیے وہ قطعاً جائز ہی  
 نہیں۔ اب جب کہ حدیں جاری کرنے کی ذمہ داری ایک قطعی اور

لازمی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا ایک امام کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ جس شے پر کسی امر واجب کی تمہیل منحصر ہو اور وہ حد استطاعت سے باہر بھی نہ ہو، وہ خود بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایسی

حالت میں امام کے تقرر کا واجب ہونا بالکل قطعی ہو جاتا ہے۔

(۲) اب رہا احادیث کا معاملہ، تو اس طرح کی متعدد حدیثیں کتاب کے پہلے

باب میں آپ پڑھ چکے ہیں جو مسلم معاشرے کے لیے ایک حکومتی نظام کی ضرورت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یاد تازہ کرنے کے لیے ان میں سے دو خاص حدیثوں پر پھر سے نظر ڈال لیجیے۔

دَا مَن مَاتَ وَكَيْسٍ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً

جَاهِلِيَّةً۔ (مسلم جلد دوم - صفحہ ۱۲۸)

”جو کوئی اس حال میں مر گیا ہو کہ اس کی گردن (خلیفۃ المسلمین کی)

بیعت (کے قلاوے) سے خالی ہو اس کی موت جاہلیت کی

موت ہوگی۔“

دَا مَن مَاتَ وَكَيْسٍ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً

جَاهِلِيَّةً۔ (مسلم جلد دوم - صفحہ ۱۲۸)

”جو کوئی اس حال میں مر گیا ہو کہ اس کی گردن (خلیفۃ المسلمین کی)

بیعت (کے قلاوے) سے خالی ہو اس کی موت جاہلیت کی

موت ہوگی۔“



جہاد فی سبیل اللہ کا۔

ایک حکومتی ادارے کی ضرورت کے بارے میں پہلی حدیث کا انداز کچھ ایسی قسم کا ہے جیسا کہ قرآن مجید کا ابھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بیعتِ خلافت سے محرومی انسان کو جاہلیت کی حالت میں پہنچا دیتی ہے، ملاحظہ یہ معنی رکھتا ہے کہ مسلم معاشرہ نظامِ خلافت کے بغیر ہوتا ہی نہیں یا کم از کم یہ کہ اسے ہرگز ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اور جب حقیقت یہ ٹھہری تو یہ گویا اس بات کا اعلان و اظہار ہے کہ اس نظام کا قائم کرنا اور قائم رکھنا اس معاشرے کی ایک لازمی اور فطری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اس عالم اسباب میں کوئی نظام حکومت آپ سے آپ قائم نہیں ہوا کرتا، بلکہ کسی انسانی گروہ کی کوششوں ہی سے قائم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مسلم معاشرہ بھی اس وقت تک باحکومت نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود اس کی ذمہ داری محسوس نہ کرے اور اس کے لیے ضروری کوششیں انجام نہ دے۔

دوسری حدیث، تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس بارے میں اس کی حیثیت صاف طور پر واضح اور راست ہدایت کی ہے۔ کیونکہ اس میں ایک ایسی اجتماعی زندگی بسر کرنے کا صریح حکم دیا گیا ہے جو کوئی معمولی قسم کی نہیں بلکہ وسیع، اور طاعت والی اجتماعی زندگی ہے، یعنی ایک ایسی زندگی جس میں احکام جاری ہوتے ہوں، جس کے اندر کوئی حکم دینے والا ہو اور لوگ اس کی طاعت کرنے والے ہوں، صاف لفظوں میں یہ کہ جو ایک نظام امر و طاعت یا ایک حکومتی ادارہ، رکھنے والی اجتماعی زندگی ہو۔ کیوں کہ وسیع و طاعت کا

وجود کسی نہ کسی طرح حکومت کے وجود ہی پر موقوف ہے۔ جہاں حکومت نہ ہو وہاں اس "سمع و طاعت" کا بھی کوئی سوال باقی نہ رہ جائے گا۔ چنانچہ یہ دونوں الفاظ احادیث میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، اور قریب قریب ہر جگہ ان سے مراد اُمر اور حکام کی اطاعت ہی ہے۔

(۳) انوۃ رسول کا حال اس باب میں ساری دنیا پر روشن ہے۔ آپؐ معنی تو ابتداء ہی سے صاحبِ امر و حکم تھے، مگر ہجرت کے بعد تو آپؐ کی یہ حیثیت ظاہری اور اصطلاحی طور پر بھی پوری طرح نمایاں ہو گئی، اور پھر آخر دم تک نمایاں سے نمایاں تر ہی رہی۔ سارے اہل ایمان ایک قوم، ایک ملت اور ایک جماعت تھے اور آپؐ اس کے قائد و سربراہ تھے۔ پورا اسلامی خطہ ارض ایک مملکت تھا، اور آپؐ اس مملکت کے حکمران تھے۔ غرض ایک اسٹیٹ اور ایک گورنمنٹ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ مسلم آبادی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری طرح موجود پایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپؐ کی مدنی زندگی کا لمحہ لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام کے ساتھ، مسلم معاشرے کے ساتھ، منصب رسالت کے ساتھ ایک ریاست اور حکومت کا تصور معنی و حقیقت کی حد تک تو ہر وقت، اور عملی طور پر بشرط امکان، لازم و واجب ہے۔ ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسولؐ نے ایک ایسا کام کیا اور پیغام کیا، جس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہ تھا، ایک ایسی حیثیت اختیار کی، اور مسلسل اختیار کیے رکھے، جو نبوت کے تقاضوں میں شامل نہ تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا خیال کرنا کسی اور کے لیے ممکن ہو تو ہو، ان لوگوں کے لیے کسی طرح ممکن نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے

ہیں۔

(۴۲) اسوۂ صحابہ جو کچھ اس مسئلہ میں رہا ہے، اس کی ضروری تفصیل یہ ہے:

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرات صحابہ کرام نے جن کام کو سب سے اہم سمجھا اور جسے ہر دوسرے کام پر مقدم رکھا، وہ خلیفہ رسول کا انتخاب اور نظم خلافت کا قیام تھا۔ حتیٰ کہ تدفین کے فریضے کو بھی موخر رکھا گیا۔ نعش مبارک رکھی رہی۔ جب خلیفہ کا انتخاب ہو گیا، تب جا کر اسے دفن کیا گیا۔ صحابہ کا یہ طرز عمل نہ اختلافی تھا نہ ہنگامی، بلکہ اجماعی بھی تھا اور مستقل بھی یعنی انہوں نے ایسا پورے اتفاق رائے سے کیا، اور پھر بعد میں بھی ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ جب کسی خلیفہ کا انتقال ہوا تو اس وقت تک اسے دفن کرنے کے فریضے کی طرف متوجہ نہ ہوئے جب تک کہ اس کے جانشین کا انتخاب نہ کر لیا۔ دشرع عقائد نسفیہ صفحہ ۱۱۰) صحابہ کرام کا یہ متفقہ اور مستقل طرز عمل نظم حکومت کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں ان کے جس شدید احساس کا منظر ہے، وہ شاید ہی اپنی کوئی نظیر رکھتا ہو۔ یہ ان حضرات کا اس بات پر غیر مشکوک اجماع تھا کہ مسلم معاشرہ ایک امام و خلیفہ، دوسرے لفظوں میں ایک حکومتی ادارے سے ہرگز خالی نہیں رہ سکتا۔ دینی حیثیت سے یہ ایک ناقابل قبول صورت حال ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق نے وفات رسول کے بعد صحابہ کرام کے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

الان محمد اقامت ولا بد لهذا الدين

ابن مین یقودنبہ۔ (کتاب المواقف و شرحہ - جلد ۸ - صفحہ ۳۲۶)

”آگاہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور اب اس دین کے لیے ایک ایسا شخص بہر حال ضروری ہے جو اس (کے قیام و نفاذ) کا ذمہ دار رہے۔“

آنجناب کا منشا ان لفظوں سے واضح طور پر ایک خلیفہ کے انتخاب و تقرر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہ بات صحابہ کے بھرے مجمع میں کہی گئی تھی، اور ایک زبان بھی ایسی نہ تھی جس نے اس کے صحیح اور برحق ہونے سے انکار کیا ہو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ:۔

لا اسلام الا بالجماعة ولا جماعة الا بامارة۔

(جامع بیان العلوم)

”جماعت کے بغیر اسلام اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر

جماعت، جماعت نہیں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب خوارج نے لاحکوا الا للہ

کا نعرہ لگایا تو آپ نے فرمایا:

انما يقولون لا امارا ولا ابد من امارا بسرة

ادفاجرة۔ (الملل والنمل للشہرستانی جلد اول صفحہ ۵۵)

”ان کا کہنا تو یہ ہے کہ کوئی امارت (اور حکومت) ہوتی ہی

نہ چاہیے، حالانکہ امارت بہر حال ضروری ہے، چاہے وہ اچھی ہو

چاہے بُری۔“

رسول خدا کے ان معیاری جانشینوں اور دین حق کے ان بہترین ترجمانوں

کے یہ ارشادات آپ کے سامنے ہیں۔ ان پر نظر ڈالیے، اور پھر سوچیے کہ کیا کوئی لفظ ایسا ہو سکتا ہے جو ایک حکومتی ادارے کو دین و ملت کی ایک ناگزیر ضرورت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہو اور وہ ظاہراً یا معنماً، ان میں استعمال نہ کیا گیا ہو؟

جس حکومتی نظام کی ضرورت پر قرآن مجید، حدیث شریف، اسوۂ رسول اور اقوال و اعمال صحابہ، سب کی شہادتیں موجود ہوں، اور ایسے واضح اور قطعی انداز کی موجود ہوں، علمائے شریعت اس کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے تھے کہ مسلم معاشرے کی یہ ایک لازمی ضرورت ہے اور اس نظام کا قائم کرنا اور قائم رکھنا اس کے دینی فرائض میں شامل ہے۔ چنانچہ قاضی ماوری کہتے ہیں۔

عقد عالمین یقوم بہا فی الامۃ واجب بالاجماع

(الاحکام السلطانیہ، ۳)

”امامت (یعنی خلافت) کا، ایک ایسے شخص کے لیے

انعتقاد، جو امت کے اندر اس کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، بالاجماع

واجب ہے۔“

اسی طرح علامہ نقی زانی شرح عقائد نسفیہ میں فرماتے ہیں کہ:

الاجماع علی ان نصب الامام واجب (صفحہ ۱۱)

اس بات پر اجماع ہے کہ امام (یعنی خلیفہ) کا تقرر واجب

ہے۔“

لے اس اجماع میں خارجیوں کے ناقابل ذکر گروہ کے سوا سبھی لوگ (باقی صفحہ ۱۰۸ پر)

یعنی امت کے لیے اپنا ایک حکومتی نظام قائم کرنا شرعاً واجب ہے۔ اگر وہ اپنے اس فریضے سے عہدہ برآ نہیں ہوتی تو یہ ایک اجتماعی معصیت ہوگی، جس کیلئے اسے اللہ کے حضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

اگے اس وجوب کی دلیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:-

ولان كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف

عليه - (ایضاً)

”اور اس لیے کہ بہت سے شرعی واجبات کا ادا ہونا اسی

ر امامت پر موقوف ہے۔“

اور دراصل یہ واجبات شریعہ کی ادائیگی، ہی وہ سب سے بنیادی غرض اور ضرورت تھی جس کی بنا پر رسولؐ نے وہ کچھ کیا اور فرمایا ہے جو اوپر کی سطروں میں مذکور ہے۔ جس نظام حکومت کے بغیر دین کے کثیر التعداد واجبات، ادا ہو ہی نہیں سکتے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تو موجود نہ ہو، مگر دین صحیح مسنون میں موجود

دقیقہ حاشیہ ص ۱۰، اسے شریک ہیں۔ البتہ فرقہ امامیہ اور فرقہ اسماعیلیہ کا خیال یہ ہے کہ امام کا تقرر واجب تو ہے مگر خلق کے ذمے نہیں، بلکہ خدا کے ذمے۔ خوارج کے نزدیک امام کا تقرر اور نظام حکومت کا قیام صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ کتاب المواقف وشرعہ، جلد ۸، صفحہ ۳۴۵) لیکن یہ دونوں طرح کے خیالات، عملی، عقلی اور شرعی، ہر حیثیت سے اتنے پوچھ ہیں کہ ان کی تردید کی بھی ضرورت نہیں۔

ہو؛ مانتا ہی پڑے گا کہ حکومتی نظام کے بغیر اسلام اپنی صحیح اور کامل شکل میں کبھی نمودار نہیں ہو سکتا، اور عقل عام یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ جس 'اسلام' کے پاس حکومت اور نظام حکومت نہ ہو، اس کی حیثیت ٹھیک ایک لنگڑے لولے اور اپاہج جسم کی سی ہے۔ ایسے جسم کو اگر چہ مردہ لاش نہ کہا جائے گا، مگر ایک تندرست اور کارآمد وجود بھی نہ قرار دیا جاسکے گا، اور نہ کبھی اس سے وہ کارنامے انجام پاسکیں گے جو تندرست اور صحیح الاعضا جسموں ہی سے متوقع ہوتے ہیں۔

اسلام اور حکومتی نظام کا یہ لازمی تعلق صرف اسی 'اسلام' تک محدود نہیں ہے، اور نہ اصولاً ہو سکتا ہے، جسے قرآن اور نبی آخر الزماں نے پیش فرمایا ہے، بلکہ ہر اسلام، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر دین تک اس کا دائرہ وسیع ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ کی پیش رو امت (بنی اسرائیل) کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ  
كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ (مسلم کتاب الامت)

بنی اسرائیل کا نظم و نسق ان کے انبیا چلاتے تھے۔

جب ایک نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی مبعوث ہو جاتا۔

اس "نظم و نسق" کی مختلف اوقات میں چاہے بظاہر جو شکلیں بھی رہی ہوں، لیکن اتنی بات تو تسلیم ہی کرنی پڑے گی کہ ہر حال میں وہ حقیقتاً ایک حکومتی نظام ہی ہوتا تھا، البتہ اس کی معیاری اور مکمل شکل وہ تھی جو حضرت داؤد اور

حضرت سلیمان علیہما السلام کے دور میں پائی گئی۔ اس حدیث کے انداز بیان کو ذرا غور سے دیکھیے۔ اس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ملت اسرائیل میں عموماً حکومتی نظم و نسق برابر قائم رہا کرتا اور براہ راست اس کے نبیوں کے قرائن میں داخل ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ان انبیاء کے مقصد بعثت تک میں شامل رہا کرتا تھا۔ یہ نکتہ دین کے لیے سیاست کی، اور اہل دین کے لیے حکومتی نظام کی ضرورت کو روشن سے روشن تر کر دیتا ہے۔

### خلافت کے قرائن

جس شخص کا خلافت کے منصب پر تقرر ہوگا، اس کا کام عام حکمرانوں سے بہت وسیع اور بہت مختلف ہوگا۔ یہ منصب اول و آخر ایک شرعی منصب ہے اور شریعت نے اپنے متعین مقصد ہی کی خاطر اسے قائم کیا ہے۔ اس لیے خلیفہ کا فرض یہ ہوگا، اور صرف یہی ہوگا کہ وہ اس مقصد کو پورا کرے۔ یہ مقصد دو نقطوں میں اللہ کے دین کا قیام ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے واضح ہوتا ہے۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ:

إِن أَمْرَكُمْ عِنْدَ عَيْنِ مُجْتَمَعٍ يَقُودُكُمْ

بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ

(مسلم، کتاب الامارۃ)

اگر کوئی ایسا غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جس کے اعضا کٹے ہوئے ہوں، لیکن وہ قانون الہی کے مطابق تمہاری سرکاری کرسی سے، تو اس کی سنو اور اطاعت کرو۔



ایک اور موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ :-

إِنَّا هَذَا أُمَّةٌ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ  
إِلَّا كَبَّهٗ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ -

(بخاری، کتاب الاحکام)

”یہ چیز (یعنی خلافت) قریش میں رہے گی۔ جو شخص اس  
معاہدہ میں ان کے خلاف عداوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے منہ کے  
بل گرا دے گا، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں۔“

ان حدیثوں کے دیکھنے کے بعد اس حقیقت پر کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کہ کوئی  
امیر عوام کی فرماں برداری کا، اور کوئی خلیفہ خلافت کے اقتدار کا واقعی حق دار اسی  
وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ شریعت کے قوانین اور مصالح کے تحت  
اپنے فرائض انجام دے، اور اللہ کے دین کو قائم رکھے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت  
ہے کہ کسی منصب کا حق دار باقی رہتا جس چیز پر موقوف ہوا کرتا ہے، وہ صرف  
وہ فریضہ اور مقصد ہوتا ہے جس کی خاطر یہ منصب قائم کیا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا کھلا ہوا مطلب یہ ہوتا کہ منصب  
خلافت کے قیام کی غرض و خایت، اور خلیفہ کا فرض منصبی صرف اقامت دین

ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فقرہ ابھی ہمارے سامنے آچکا ہے کہ :-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور اب اس دین  
کے لیے ایک ایسے شخص کی بہر حال ضرورت ہے جو اس کے

قیام و نفاذ کا ذمہ دار ہو۔

یہ فقرہ، جو دراصل صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق ہی کا نہیں بلکہ پورے گروہ صحابہ کا فقرہ تھا، اس بات کا صریح اعلان ہے کہ خلیفہ کا وجود اگر مطلوب ہے تو صرف اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور یہی وہ نسخہ ہے جسے اسے انجام دینا ہوتا ہے۔ ان حقائق کی موجودگی میں علماء نے سجا طور پر امامت، یعنی خلافت کی تعریف ہی ان نفلوں میں کی ہے:

ہی خلافة الرسول في اقامة الدين وكتاب المواقف

امامت نام ہے دین کی امامت کے معاملہ میں رسول خدا کی

جانشینی کا۔

دین کی امامت، کا مفہوم اتنا ہی وسیع اور ہمہ گیر ہے جتنا کہ خود دین، کا مفہوم۔ کتاب و سنت میں جتنے احکام ہیں، وہ سب کے سب دین ہیں۔ اس لیے دین کی امامت، کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم معاشرے سے اس پورے مجموعے کے تحت زندگی بسر کرائی جائے۔ اس اجمال کی پوری تفصیل ظاہر ہے کہ بڑی طولانی ہو گی، جس کا نہ یہاں کوئی موقع ہے اور نہ کوئی ضرورت۔ البتہ اس کے بنیادی نکات ضرور معلوم کر لینے چاہئیں، تاکہ خلیفہ کے فرائض کا ایک خاکہ سامنے آجائے۔ اس نغمہ کے لیے اگر آپ ان اسباب و مصالح پر پھر سے نظر ڈال لیں جن کی بنا پر شریعت نے اس منصب کا قائم کرنا ضروری قرار دیا ہے، تو ان نکات کا تعین کچھ اس طرح ہو گا۔

۱۔ دین کی علمی و نظری حفاظت، دینی علوم کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں میں

دینی یقین کی بقا و ترقی کا اہتمام۔

۲- دین کی عملی بنیادوں (نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج) کو قائم رکھنا، اور معاشرے میں ان کی طرف سے غفلت نہ پیدا ہونے دینا۔

۳- دین و ملت کا دشمنوں سے دفاع کرنا، اور اس غرض کے لیے جنگ و جہاد کے جملہ فرائض انجام دینا۔

۴- معاملات کا فیصلہ اور عدل کا قیام۔

۵- مجرموں پر سزاؤں کا نفاذ۔

۶- افراد معاشرہ کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت، اور امن و امان کا قیام۔

۷- کمزوروں اور حاجت مندوں کی خبر گیری۔

۸- اندرون معاشرہ بھی اور بیرون معاشرہ بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا پورا اہتمام۔

اگر آپ چاہیں تو مزید نکات کے بھی نام لے سکتے ہیں۔ چنانچہ بعض علماء نے فرائض خلافت کی تعداد اس سے زیادہ بتائی ہے۔ مگر حق یہ ہے کہ اس ضمن میں جن دوسری چیزوں کا نام لیا جاسکتا ہے وہ یا تو انہی آٹھوں میں سے کسی کے اندر شامل ہوں گی، یا پھر ان کی نوعیت بنیادی نکات کی نہ ہوگی۔

**خلافت کے حقوق**

خلافت یا خلیفۃ المسلمین کے فرائض جتنے وسیع اور ہمہ گیر ہیں، اس کے حقوق بھی اتنے ہی عظیم ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی دوسری حکومت اور حکمران شخصیت وہ حقوق

نہیں رکھتی جو اسے حاصل ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی تفصیل یہ ہے۔  
 ۱۔ اطاعت۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کے احکام سنے اور ماننے  
 جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ - وَالنِّسَاءُ: ۵۹

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول

کی، نیز اپنے میں کے اصحاب امر کی۔“

اس آیت میں اصحاب امر کی اطاعت کا، جن میں خلیفہ المسلمین پر ایسے  
 سرپرست ہے، واضح حکم دیا گیا اور اسے اہل ایمان کے لیے ضروری ٹھہرایا گیا  
 ہے۔ اس طرح ضروری کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے حکم کے پہلو ہی میں یہ  
 حکم بھی ثبت کر دیا گیا ہے۔ اس اندازِ کلام کا جو تقاضا ہے وہ اہل نظر پر معنی نہیں  
 رہ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقاضے کی شرح فرمائی تھی جب یہ ارشاد  
 ہوا تھا کہ:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعِصِنِي

فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي

وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي - (مسلم جلد ۲)

”جس نے میرا حکم مانا اس نے دراصل اللہ کا حکم مانا، اور جس

نے میری نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی کی۔ اور

جس نے اپنے امیر کا حکم مانا اس نے دراصل میرا حکم مانا، اور جس

نے امیر کی نافرمانی کی اس نے دراصل میری نافرمانی کی۔  
جو اطاعت، فی الواقع اللہ ورسول کی اطاعت بن جاتی ہو، وہ افراد کی اپنی  
مرضی اور سہولت پر موقوف نہیں رہ سکتی۔ اس کا توحق ہو گا کہ اسے اشخاص کی  
طبعی آماجگیوں سے یکسر بلند رکھا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ  
بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

وَعَاثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَايَعَنَا  
فَكَانَ فِي مَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ  
فِي مَنْشِطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا۔

الاصحاح الثامن عشر - كتاب الامارات

”ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ سے ہم نے بیعت

کی تو ان باتوں میں جن کا ہم سے آپ نے عہد لیا یہ بات بھی شامل

سبب تھی کہ ہم ہر حال میں چاہے ہمیں گوارا ہو یا ناگوار، ہم تنگی کے عالم میں

ہوں یا کشادگی کے عالم میں اپنے امراء کے احکام سنیں گے اور ان

حکام کی اطاعت کریں گے۔“

پھر صرف یہی نہیں کہ طبیعت کی ناگواری اور تنگی و پریشانی عالی کے وقت بھی

سمع و طاعت ایک مسلمان کا فرض ہے، بلکہ یہ فرض اس وقت بھی اپنی جگہ جو رک

توں پر قرار دیتا ہے جب یہ حکم دینے والے بے کرداری کے شکار ہوں، اور

حقوق کے مواقع پر انہیں اپنی ذات سب سے پہلے یاد آتی ہو۔ چنانچہ مذکورہ

حدیث اطاعت میں آگے یہ الفاظ بھی آتے ہیں:۔

وَأَشَدُّ عَلَيْكَ -

”اور اس وقت بھی ایسا ہی کریں گے جب ہمارے خلاف

تربیح برقی جاری ہو۔“

اور بات اب بھی اپنی حد کو نہیں پہنچی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تو

یہاں تک ہے کہ:

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالَكَ

فَاسْمَعْ وَأَطِيعْ - (مسلم - کتاب الامارۃ)

”تمہیں امراء کے حکموں کو سُننا اور ماننا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر تمہاری

پٹھیز زخمی کر دی جائے اور تمہارا مال چھین لیا جائے تو بھی سُننے اور

ماننے رہنا۔“

یہ، اور اسی طرح کی متعدد حدیثیں مسلمانوں کو تلقین کرتی ہیں کہ وہ اپنے خلاف

سب کچھ جھیلتے رہیں، مگر سمع و طاعت کے دامن کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جب

تک ایک شخص امارت یا خلافت کے منصب پر فائز ہے، اس کی اطاعت کا

حق ناقابل انکار ہے، اور مسلمان کا فرض ہے کہ اس حق کو برابر تسلیم کرتا رہے۔

اس کی بے کرداری اور اس کی بے انصافی اور ستم کو شنی بھی اس کے اس حق کو ساقط

نہیں کر سکتی۔

یہ حق، کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا انکار مسلمان کو کہاں پہنچا دیا

کرتا ہے؟ اس کا اندازہ ذیل کی حدیثوں سے لگائیے۔

مَنْ نَحَلَهُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَلَا حُجَّةَ لَكَ - دمسلم، کتاب الامارۃ

”جس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا وہ قیامت کے دن

اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس (اپنی روش کے حق ہونے پر) کوئی دلیل نہ ہوگی۔“

معلوم ہوا کہ امراء و خلفاء کی نافرمانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے جو یہیں ختم ہو جاتا ہو،

بلکہ ایسا ہے جو کل خدا کے حضور بھی پیش ہوگا۔ اور جب پیش ہوگا تو وہاں اس جرم

کی صفائی میں کوئی بات نہ کہی جاسکے گی۔ آدمی کو اقرار می مجرم بننے کے لیے مجبور

ہونا پڑے گا۔

ایک اور موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہر

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرٍ شَيْئًا يَكْرَهُ فَلْيَصِدِّعْ عَلَيْهِ

فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا خَسِمَاتِ الْأَمَاتِ مِثْلَةَ

جَاهِلِيَّةٍ۔ (بخاری، کتاب الفتن)

”جو کوئی اپنے امیر کے ہاتھوں کوئی ناگوار حرکت سرزد ہوتے

دیکھے، اسے چاہیے کہ صبر کرے اور اس کی وجہ سے اس کی

اطاعت سے منہ موڑ لینے کی ہرگز نہ سوچے، کیونکہ جو شخص بالشت

برابر بھی جماعت سے الگ ہو رہے گا وہ جاہلیت کی حالت میں

رہے گا۔“

یہ حدیث جہاں ایک طرف اس حقیقت پر ایک نئے انداز سے روشنی ڈالتی

ہے جو پہلی حدیث سے معلوم ہوتی تھی، وہیں دوسری طرف یہ بھی بتا دیتی ہے

کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہتی ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت اسلامی اجتماعیت اور ملی تنظیم کے نشان کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی اطاعت سے انکار صرف ایک فرد کی اطاعت کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ دراصل اس پوری اجتماعی تنظیم سے علیحدگی کا اعلان ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا خطرناک اقدام ہے جس کے بعد خود مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے۔ آدمی اپنی تمام تر دین داریوں کے باوجود جب مرتا ہے تو ایک طرح کی جاہلی موت مرتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ کئی جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ چنانچہ یہ تشبیہ ہماری نظروں سے گزر بھی چکی ہے کہ:-

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدًا شَرِيفًا خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ -  
(مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

”جو کوئی جماعت سے بالشت برابر بھی الگ ہو رہا اس لیے

اپنی گردن سے اسلام کا حلقہ نکال پھینکا، الا یہ کہ وہ جماعت کی طرف پھر لوٹ آئے۔“

۴۔ عبادت۔ خلافت کا حق یہ بھی ہے کہ صاحب امر سے محبت رکھی

جائے۔ جس طرح ظاہر میں اس کے احکام کی اطاعت ہو، اسی طرح دلوں میں اس کی ذات کے لیے جگہ موجود ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

خَيْرُ آيَاتِكُمُ الْكَيْفَ تَحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ  
وَتَصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِدَارُ



اِيْمَانِكُمْ وَالَّذِينَ تَبْغِضُونَ لَكُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَ لَهُمْ  
وَيَلْعَنُونَ لَكُمْ۔ (مسلم، کتاب الامارۃ)

”تمہارے اچھے خلفاء وہ ہوں گے جن سے تم کو محبت ہو اور  
تم سے انہیں محبت ہو، اور جن کے لیے تم رحمت کی دعائیں کرو اور  
وہ تمہارے لیے کریں۔ اسی طرح تمہارے بُرے خلفاء وہ ہوں گے  
جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، اور جن پر تم لعنت بھیجو  
اور وہ تم پر لعنت بھیجیں۔“

”اچھے خلفاء وہ ہوں گے“ یعنی ایک خلیفہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی  
اصل پوزیشن یہی ہے کہ لوگ اس کے لیے بہترین جذبات رکھیں، اس کے  
دل سے خیر خواہ ہوں، اور ان کی نگاہوں سے اس کی محبت اور عقیدت ٹھیک  
پڑتی ہو۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں اس رویے کو دین داری کا راستہ تعاضلاً  
قرار دیا گیا ہے۔

الَّذِينَ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لَكَ وَلِرسُولِهِ

وَلِاٰئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ۔ (مسلم)

”ان“ دین اخلاص مندی کا نام ہے۔ ہم نے (یعنی صحابہؓ نے)

پوچھا کس نے لیے اخلاص مندی کا؟ ارشاد ہوا ”اللہ کے رسولؐ

کے، مسلمانوں کے خلفاء کے، اور عام مسلمانوں کے۔“

یہاں یہی وجہ ہے کہ خلافت کی بیعت کو صرف ایک ظاہری اور رسمی اظہار وفاداری

نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اپنی متاع قلب دے دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدًا وَثَمَرَةً

قَلْبِهِ فَلْيُطِيعْهُ مَا اسْتَطَاعَ - (مسلم، کتاب الامارات)

”جس نے خلیفہ سے بیعت کر لی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ

دے دیا اور اپنی متاعِ قلب اس کے حوالہ کر دی، اسے چاہیے

کہ اپنے بس بھر اس کی پوری پوری اطاعت کرتا رہے۔“

گویا خلیفۃ المسلمین سے بیعت، عہدِ اطاعت ہی نہیں عہدِ خلاص و

محبت بھی ہے۔

۳۔ بیعت برائے دین و آخرت۔ خلافت کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے

دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ضرورت سمجھا جائے، اور خلیفہ سے جو بیعت کی جائے

اس کے پیچھے اصل محرک صرف آخرت اور رضائے الہی ہو۔ رسول خدا صلی

اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...

وَمَنْ جُلَّ بَايَعَ إِمَامًا لَا يَبَايِعُهُ إِلَّا كِدَانًا -

(بخاری، ج ۲، کتاب الاحکام)

”تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (بوجہ ناراضی)

مخاطبت نہ فرمائے گا۔۔۔۔۔ ایک اس شخص سے جس نے خلیفہ سے

بیعت صرف دنیوی غرض سے کی ہو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ خلیفۃ المسلمین کی بیعت یا اطاعت سے انکار ہی ایک

مسلمان کے لیے ناروا اور مہلک نہیں ہے، بلکہ وہ نام نہاد بیعت اور اطاعت

بھی ایسی ہی ثابت ہوگی جو محض دنیوی مصلحتوں کی خاطر کی گئی ہو۔ یہ صحیح ہے کہ  
 دنیا میں عام طور سے حکومتوں کی وفاداریاں اسی طرح کی ہوا کرتی ہیں، اور  
 یہی ان کے لیے بس بھی کرتی ہیں۔ مگر اسلام کا معاملہ بہت مختلف ہے۔  
 جس چیز کو دوسری حکومتیں اپنا آخری مطلوب سمجھتی ہیں، اسلام کی نگاہ میں اصلاً اس کی  
 کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے نزدیک یہ اطاعت اور یہ بیعت اسی وقت باوزن اور  
 قابل قدر ہوگی جب کہ وہ دین کی ضرورت سمجھ کر اور اللہ کی رضا کی خاطر کی گئی ہو۔  
 خلافت اور خلیفۃ المسلمین کو یہ غیر معمولی حقوق جس وجہ سے دیئے گئے ہیں،  
 پچھلے مباحث میں اس کی پوری وضاحت بھی گزر چکی ہے۔ بیعت کو دین و آخرت  
 کی ضرورت سمجھتے ہوئے منعقد کرنا خلافت کا حق اسی لیے ہے کہ خلافت کی حیثیت  
 بنیادی طور پر یہی ہے۔ چنانچہ واضح دلائل کی روشنی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ خلافت ایک  
 اہم ترین دینی ضرورت ہے، اور اس کا قیام شرعاً واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ جو منصب  
 بنیادی طور پر ایک دینی منصب ہو اس کا وہی ماننا واقعی ماننا ہو سکتا ہے جب اسے  
 دینی منصب سمجھ کر مانا گیا ہو ورنہ اس کا ماننا ایک گھلا ہوا فریب ہوگا۔ آخر جس چیز کی  
 اصل بنیادی حیثیت ہی کسی کو تسلیم نہ ہو، وہ اس کے تسلیم کرنے کا دعویٰ اگر کرتا ہے  
 تو اس کے اس دعوے کو کون صحیح باور کر سکتا ہے؟ رہا محبت اور اطاعت کا حقوق  
 خلافت میں سے ہونا، تو یہ بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے۔ جو منصب  
 دین ہی کی خاطر قائم کیا گیا ہو اور جس کی حیثیت متراسر شرعی ہو، اسے ایک مسلمان  
 قطری طور پر محبت اور عقیدت ہی کی نظروں سے دیکھے گا، اور اس کے ساتھ اس کا  
 عملی رویہ اطاعت و فرماں برداری ہی کا ہوگا۔ یہی اس کے ایمان کا تقاضا ہوگا اور اسی میں

اس کے جذبہ دینی کو اسودگی مل سکے گی۔ خصوصاً اطاعت تو اس کے دین و ایمان کا راست اور بدیہی مطالبہ ہوگی۔ کیونکہ اس کے بغیر خلافت کا وجود ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ آخر جہاں لوگ اطاعت کے لیے تیار ہی نہ ہوں، وہاں کسی حکومت اور امارت کا کیا مفہوم باقی رہ جائے گا؟ لوگوں کا اطاعت سے انکار تو عملاً نظام حکومت کے ختم ہو جانے کا واضح اعلان ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ خلفاء کی اطاعت پر اتنا زور دیا گیا، اور امکان کی آخری حد تک اس فرض کے نبہانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت بھی یہ فرض فرض ہی رہتا ہے جب رعایا کی ٹیٹھیں اُدھر رہی ہوں، اور اس وقت بھی اس حق اطاعت کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا جو جان و مال تک کی امان باقی نہ رہ گئی ہو۔ اسلام کے آئین میں یہ دفعہ صرف اس لیے ثبت کی گئی ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کا معاملہ فی الواقع اس کی ذات کی اطاعت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ احکام خدا اور رسول کی اطاعت کا، اور دین کے اجتماعی نظام کی بقا کا معاملہ ہے۔ اس لیے وہ اپنی ذات میں ناقص اور بے کردار بھی، مگر جب تک وہ خلافت کے منصب پر فائز ہے اسی کی فرماں روائی سے اس نظام کا عملی نفاذ و استقامت ہے، اسی پر دین کے ایک بڑے حصے کی پیروی موقوف ہے اور اس کے بغیر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اسلامی بن ہی نہیں سکتی۔ یوں کہیے کہ وہ اس زمین پر دراصل اللہ تعالیٰ کی تشریحی حاکمیت کا عملی مظہر، اور اس کے اقتدار کا ظاہری نشان ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مسلمان سب کچھ سہے گا، اور بہر بات گزار کر لے گا، مگر اس مظہر کو غائب اور اس نشان کو مٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ تو ضرور برداشت کر لے گا کہ اسلام کے گھر میں بھی مسلمان کو سلامتی میسر نہ ہو، لیکن

یہ کبھی برداشت نہ کرے گا کہ اسلام کا یہ گھر ڈھ جائے اور دین کے اجتماعی نظام سے وہ محروم ہو رہے۔ اور اگر کوئی اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ایمان کی بنیادیں چھوٹ چکی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی دنیا کے مفاد کو دینی نظام کی بقا پر کھلی ہوئی ترجیح دے رہا ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ایمان اسلام کے ساتھ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔

### طاعت کی حدود

یہی مصلحت جس کی خاطر اصحاب امر کی اطاعت پر اتنا زور دیا گیا ہے، یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ یہ اطاعت غیر معمولی حد تک ضروری تو ہو، مگر ہر حال میں ضروری نہ ہو، بلکہ ایک خاص حد کے بعد الٹا اس کا انکار ضروری بن جائے۔ کیونکہ ایک مسلمان اپنے امیر کی اطاعت میں جو کچھ بھی گوارا کرتا ہے، وہ صرف اسی لیے تو کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے، اس نظام پر ضرب نہ لگنے پائے جس پر اجتماعی زندگی میں اس کا مسلمان باقی رہنا موقوف ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مطالبہ کسی ایسی اطاعت کا، یعنی کسی ایسی بات کے صرف گوارا کر لینے کا نہیں بلکہ اس کے کر ڈالنے کا ہو رہا ہو جس سے خود اس نظام کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہو، تو یقیناً وہ اسی بات کی مستحق ہوگی کہ اسے دیوار پر دے مارا جائے۔ چنانچہ شریعت نے جس صراحت اور زور کے ساتھ اطاعت امر کی تلقین کی ہے، اسی صراحت اور زور کے ساتھ یہ بھی فرما رکھا ہے کہ یہ اطاعت غیر مشروط ہرگز نہیں ہے بلکہ قطعی مشروط ہے، اور ایک خاص حد کے اندر ہی کی جانی چاہیے۔ اس شرط، اور حد، کا تعین اس نے منہی بہت سے لفظ 'موصیبت' کے ذریعہ اور مثبت

بہت سے لفظ 'معروف' کے ذریعہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي

الْمَعْرُوفِ (مسلم)

”اللہ کی معصیت کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت

صرف 'معروف' میں ہوگی۔“

یعنی اطاعت کی شرط یہ ہے کہ حکم کسی 'معروف' کا دیا گیا ہو، نہ کہ کسی معصیت کا۔ معصیت کا حکم لازماً ٹھکرا دیا جاتے گا، اور اس کی تعمیل نہیں بلکہ عدم تعمیل ضروری ہوگی، ٹھیک ویسی ہی ضروری جیسی کہ 'معروف' کے حکم کے موقع پر اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے۔ امام نوویؒ لکھتے ہیں:-

اجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى

تحريمها في المعصية (شرح مسلم جلد ۲، کتاب الامارۃ)۔

”علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اصحاب امر کی اطاعت

ایسے کاموں میں جو معصیت کے نہ ہوں واجب ہے، اور ایسے

کاموں میں جو معصیت کے ہوں، حرام ہے۔“

معصیت کے کاموں میں کسی بھی صاحب امر کی اطاعت کس حد تک ممنوع

اور کیسی حرام ہے؟ اس بات کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائیے، رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کی سرکردگی میں بہاد کے لیے ایک دستہ روانہ

فرمایا، اور حسب دستور اسے ہدایت دے دی کہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے

رہنا۔ دوران سفر میں ایک بار وہ ان سے کسی بات پر ناراض ہو گئے، اور انتہائی

غصے کے عالم میں انہیں حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ جب لکڑیاں اکٹھی کی جائیں تو کہا، ان لکڑیوں کو آگ دے دو، جب آگ دے دی گئی تو انہیں مخاطب کر کے فرمایا:

”کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں فرمائی ہے کہ میری سننا اور اطاعت کرنا؟“  
لوگوں نے جواب دیا۔ ”ہاں، فرماتی ہے۔“  
اس پر انہوں نے کہا ”اچھا تو اس آگ میں پھاند پڑو۔“  
یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف تکیے لگے، اور کچھ لوگ اس حکم کی تعمیل پر تیار بھی ہو گئے۔ مگر اور لوگوں نے کہا: ہم  
”ہم تو آگ ہی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کر آتے تھے پھر اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں از خود جا پھاندیں؟“

غرض تھوڑی دیر بحث و تکرار اور شش و پنج کی یہی حالت رہی۔ اس دوران امیر شکر کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا، اور آگ بھی بجھ گئی۔ پھر جب یہ سب لوگ اپنی اہم سے فارغ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو وہاں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے سننے کے بعد ان لوگوں کو خطاب کر کے جو حکم امیر کی اطاعت میں آگ کے اندر پھاند پڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے، فرمایا:

”اگر تم آگ میں پھاند پڑے ہوتے تو پھر قیامت تک اسی میں

پڑے رہتے۔ (مسلم، جلد دوم، کتاب الامارۃ)۔

اس واقعہ اور اس ارشادِ نبوی سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس وقت بھی حرام ہی رہتی ہے جب کہ وہ کسی امیر کے کہنے پر کی گئی ہو، اور ٹھیک ویسی ہی حرام رہتی ہے کہ کسی اور وقت ہو سکتی ہے۔

طاعتِ امر کا فلسفہ اسے ہرگز قابلِ معافی نہیں بنا دے سکتا۔ جس معروف، میں امر کی اطاعت ضروری ہے، اس کی وسعتیں کہاں تک پہنچتی ہیں؟ اس کی وضاحت بھی اسی لفظ "معصیت" سے ہو جاتی ہے جو مسئلہ

اطاعت کے منفی پہلو کو بیان کرنے کے لیے مذکورہ بالا حدیث اور دوسری بہت سی حدیثوں میں لایا گیا ہے۔ جب یہ فرما دیا گیا کہ "معصیت کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف معروف میں ہوتی ہے" تو اس کے صاف

معنی یہ ہیں کہ جن احکام کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کی "معصیت" لازم نہ آ رہی ہو وہ سب کے سب "معروف" کے احکام ہوں گے، اور ان کی بجا آوری ضروری ہوگی۔ گویا وہ

سارے امور جن کی نوعیت امورِ تدبیر کی ہوتی ہے اور جن میں مختلف پہلوؤں کے

پیش نظر ایک سے زائد رائیں ہو سکتی ہیں، "معروف" ہی کی حدود میں داخل ہیں۔

یعنی ایسے امور میں صاحبِ امر کے احکام کی معقولیت سے کسی شخص کو چاہے کتنا

ہی شدید اختلاف کیوں نہ ہو، اور اپنی راستے کے صائب ہونے پر کتنا ہی گہرا اطمینان

وہ کیوں نہ رکھتا ہو، ان احکام کو اسے تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اور یہ اس کا شرعی فریضہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کا ہر حکم "معروف" کا حکم ہے، اور "معروف" میں امیر کی

اطاعت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص کو



اپنی رائے کے صائب ہونے پر جو اطمینان ہو وہ بالکل صحیح بنیادوں پر ہو اور رائے  
فی الواقع اسی کی ٹھیک ہو، مگر اس کے باوجود اسے یہ حق ہرگز حاصل نہ ہوگا کہ وہ امیر  
پر کم اندیشی اور بے تدبیری کا الزام لگا کر اطاعت سے انکار کر دے۔ اس انکار کا  
حق اسے نہ تو اس کا اپنا ذوق اور وجدان دلا سکتا ہے، نہ اپنی دُور اندیشی اور اصابت  
رائے کا یقین، اور نہ دنیا کی کوئی اور چیز۔ یہ حق اسے صرف اسی وقت مل سکتا ہے  
جب کہ حکم معروف، کا نہیں، بلکہ اللہ کی معصیت، کا دیا گیا ہو۔ ایسی حالت میں  
تو اس کا یہ حق ہی نہیں بلکہ فرض ہوگا کہ اس کی اطاعت سے صاف انکار کر دے۔  
خلفاء کی معزولی

خلفاء اور امراء کی اطاعت کے بارے میں شریعت کی ان مختلف ہدایتوں  
کو پڑھتے ہوئے ذہن میں لازماً یہ سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اصحاب امر کی ممکنہ  
بے کرداریوں اور زیادتیوں کے تقاضے آیا صرف یہی کچھ ہیں جو ابھی بیان ہوئے  
یا ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں؟ کیا شریعت کی ہدایت صرف یہیں تک محدود ہے کہ  
اگر یہ لوگ ظلم و بربریت پر اتر آئیں تو اسے صبر سے برداشت کیا جاتا رہے، حتیٰ کہ  
اگر معصیت کا حکم دیں تب تو اس کی تعمیل نہ کی جائے، لیکن باقی معاملات میں  
ان کی اطاعت سے پھر بھی انکار نہ کیا جائے، یا اس کے آگے بھی اس نے کچھ فرمایا  
ہے؟ واضح تر لفظوں میں یہ کہ کیا بے کرداریوں اور زیادتیوں کی کسی حد میں داخل ہو  
جانے کے بعد سرے سے امدت اور خلافت کا استحقاق بھی ختم ہو جاتا ہے یا  
نہیں؟ اور کیا فکر و عمل کا کوئی بگاڑ ایسا بھی ہے جس میں مبتلا ہو جانا منصبِ خلافت  
سے معزول کر دیتے جانے کا سبب بن جاتا ہے؟

اس سوال کا جواب شریعت نے اثبات میں دیا ہے۔ جسے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا تفصیل میں جانا ہو گا۔ یعنی پہلے اصولی طور پر اس بات کا جائزہ لینا ہو گا کہ خلفاء کے فکر و عمل میں بگاڑ کس کس نوعیت کا پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ جائزہ سامنے آنے پر ہی ان صورتوں کا واضح تعین ہو سکے گا جن کے پیش آجانے کے بعد کوئی شخص خلافت کا استحقاق کھودیتا ہے۔ اس جائزے کے لیے اگر آپ گہری نظر سے کام لیں گے تو معلوم ہو گا کہ فکر و عمل کا بگاڑ حسب ذیل چھ نوعیتیں اختیار کر سکتا ہے:

۱۔ صاحب امر رعایا کے حقوق نذا کرے، اور ان پر ظلم و ستم روا رکھے۔

۲۔ وہ لوگوں کو معصیت کے کاموں کا بھی حکم دینے لگے۔

۳۔ وہ بدکردار ہو جائے، احکام شرع کی اعلانیہ خلاف ورزی پر اتر آئے، اور فسق و فجور کا ارتکاب کرنے لگے۔

۴۔ وہ دین کی اہم ترین عملی بنیادوں اور ضروری علامتوں، یعنی ارکان اسلام کا بھی تارک ہو جائے۔

۵۔ اسلام سے اس کا بعد اس حد کو پہنچ جائے کہ وہ مملکت کے آئین و قانون کو بھی بدل ڈالے، اور اس میں غیر اسلامی عناصر کو لا داخل کرے۔

۶۔ وہ اسلام کے بنیادی عقائد تک سے پھر جائے، اور گفرا اختیار کر لے۔

جہاں تک پہلے دو قسم کے بگاڑوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں شریعت کی ہدایت اور وضاحت سے بیان کی جا چکی ہے۔ اور وہ یہ کہ ان خرابیوں کے

باوجود متعلقہ شخص کی امارت کو چیلنج نہ کیا جاتے گا، اور معروف، میں اس کی اطاعت بدستور لازم رہے گی۔

تیسری نوعیت کے بگاڑ کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اصحاب امر کی فاسقانہ حرکتوں سے تو مسلمان سخت بیزار رہے گا، اور ضروری ہے کہ بیزار رہے۔ لیکن ان کی امارت کو بدستور تسلیم کرتے رہنے سے انکار نہ کر سکے گا، اور نہ معروف، میں ان کی اطاعت سے دست کشی اس کے لیے جائز ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

..... أَلَا مَنْ وُتِيَ عَلَيْهِ دَالٍ فَرَأَى يَأْتِي شَيْئًا  
مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ  
اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ -

(مسلم، کتاب الامارۃ)

..... "من رکھو! جن لوگوں کے اوپر کوئی حاکم مقرر کیا گیا ہو، اور وہ اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتے دیکھیں جو معصیت کی حرکتیں ہوں، تو انہیں چاہیے کہ اس کی ان حرکتوں سے نفرت اور ناگواری رکھیں، لیکن (ساتھ ہی اس کی) اطاعت سے دست کشی ہرگز نہ اختیار کریں۔"

چنانچہ اس بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ فسق کے ارتکاب سے خلیفہ معزول نہیں ہو جایا کرتا، اور محض اس فسق کی بنا پر اس کے خلاف بغاوت کرنا صحیح نہیں، بلکہ حرام ہے۔ (شرح مسلم للنووی، کتاب الامارۃ)

اب چوتھی نوعیت کو لیجیے۔ اس قسم کے بگاڑ میں اگر صاحب امر مبتلا ہو جائے تو اس کے ساتھ مسلمان کس طرح پیش آئیں؟ آیا وہ اب بھی اس خلافت اور امارت کو تسلیم کرتے رہیں اور معروف ہیں اس کی اطاعت کو اپنے لیے لازم سمجھیں، یا کوئی اور روئے اختیار کریں؟ اس سوال کا جواب آپ کو ان حدیثوں سے ملے گا۔

يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمُ الْأَمْثَارُ فَتَعْرِفُونَ وَتَنْكُرُونَ

..... قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُفَاتِلُهُمْ قَالَ

لَا مَا صَلُّوا۔ (مسلم، کتاب الامارۃ)

”تم پر امراء مقرر ہوں گے، جن کی کچھ باتوں کو تم پسندیدہ اور اچھی پاؤ گے اور کچھ کو نا پسندیدہ اور بُری.... (صحابہؓ نے)

پوچھا ”تو کیا اسے اللہ کے رسول! ایسی حالت میں ہم ان سے جنگ نہ کریں؟“ فرمایا ”جب تک وہ نماز پڑھیں اور اس کے

”تارک نہ بنیں، ایسا نہ کرنا۔“

..... وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ

وَيُبْغِضُونَكُمْ..... قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا

تُنَابِئُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ

الصَّلَاةَ۔ (مسلم، کتاب الامارۃ)

..... ”تمہارے بُرے خلفاء وہ ہوں گے جن سے تم بغض رکھو

اور وہ تم سے بغض رکھیں.... پوچھا گیا ”اسے اللہ کے رسول!

تو کیا ہم ایسے خلفاء کے ساتھ تلوار کا معاملہ نہ کریں؟ ارشاد ہوا "نہیں،  
 جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں ایسا نہ کرنا۔"  
 ان حدیثوں سے نماز کی حد تک تو، جو اسلام کے عملی ارکان میں سے سب  
 سے پہلا اور سب سے اہم رکن ہے، بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، بات  
 بالکل صاف ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ جو شخص نماز چھوڑ بیٹھے وہ مسلمانوں کا نہ کوئی چھوڑا  
 حاکم رہ سکتا ہے نہ بڑا، نہ اس کی امارت برقرار رہ سکتی ہے نہ امامت اور خلافت۔  
 اس لئے جہاں نماز سے بے تعلقی اختیار کی، مسلمانوں کو اس بات کا حق مل جائیگا،  
 یا ان پر یہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ اسے معزول کر دیں، اور اگر وہ منصب  
 چھوڑنے سے انکار کر دے تو تلوار کی نوک سے ہٹا کر دور پھینک دیں چنانچہ  
 قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کا اجماع ہے :-

اجمع العلماء علی ان الامامة لا تنعقد لکافر علی

انہ لوطر علیہ الکفر انعزل وکذا لوترک امامة

الصلوة والدعا الیہا۔ (شرح مسلم للنووی، جلد دوم)

«علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی کافر خلیفہ نہیں بنایا جا

سکتا، اور اگر خلیفہ منتخب ہونے کے بعد متعلقہ شخص کبھی مبتلا

کفر ہو جائے تو خلافت سے فوراً معزول ہو جائے گا، اور ایسا

ہی اس وقت بھی ہوگا جب وہ نماز کا قائم کرنا اور دو تہیوں کو

اس کی تلقین و تاکید کرنا چھوڑ بیٹھے۔»

اب رہا باقی ارکانِ اسلام کا معاملہ، تو ان کے سلسلے میں ہمیں اس طرح

کی کوئی واضح ہدایت کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتی جیسی کہ نماز کے سلسلے میں ملتی ہے۔ البتہ بعض اصولی قسم کے ارشادات ایسے ضرور ملتے ہیں جن سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ مثلاً حضرت عبادہ بن صامت رضی روایت کرتے ہیں کہ:

وَعَاذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا

فَقَالَ فِيهَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ يَأْبَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

..... وَعَلَى الْإِنْفَازِ عَ الْأُمْرَاءِ إِلَّا أَنْ تَرَوْا

كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ -

بخاری، جلد دوم، کتاب الضمن

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بلا کر بیعت لی اس

بیعت میں آپ نے ہم سے جن باتوں کا عہد لیا ان میں یہ باتیں داخل

تھیں:- یہ کہ ہم دمرائے کے احکام، سنیں گے اور (ان کی) اطاعت

کریں گے..... اور چکہ صاحب حکومت سے اقتدار حکومت

کے بارے میں کشمکش نہ کریں گے، سوائے اُس وقت کے جب

کہ ہم اس سے کھلا ہو ا کفر دیکھ لیں، جس کے کفر ہونے پر ہمارے

پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل موجود ہو۔“

اس حدیث میں صاحب حکومت کے خلاف قدم اٹھانے کی اجازت دینے

سے شریعت کا صرف اس وقت تک انکار ثابت ہوتا ہے جب تک کہ اس سے

”کھلا ہو ا کفر“ صادر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے جہاں ”کھلا ہو ا کفر“ صادر

ہوتے دیکھ لیا گیا اس کا استحقاق خلافت ختم ہو گیا۔ یہاں ایک بات قابل غور اور  
وضاحت طلب ہے، اور وہ یہ کہ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد  
صرف اعتقادی کفر ہے، یا اس میں عملی کفر بھی شامل ہے؟ اگر اس حدیث  
کے منشا پر غور کرتے وقت ان دونوں حدیثوں کو بھی سامنے رکھ لیا جائے تو نماز کے  
سلسلے میں ابھی درج کی جا چکی ہیں، تو دوسری بات ہی تشریح قیاس معلوم ہوگی۔ کیونکہ  
ان تینوں حدیثوں میں مسئلہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کون سی حالت  
ہے جس کے پیدا ہو جانے کے بعد منصب خلافت کا استحقاق چھن جاتا ہے؟  
اس حالت کو پہلی دونوں حدیثوں میں 'ترک نماز' کی حالت فرمایا گیا ہے، جبکہ  
اس آخری حدیث میں اس کے اظہار و بیان کے لیے 'گھلے ہوئے کفر' (کفر بواح) کے الفاظ  
استعمال کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک ہی حالت کی تعیین و تویح کے لیے  
مختلف مواقع پر مختلف الفاظ لائے جاتے ہیں تو وہ صرف ظاہراً مختلف ہوں گے،  
معنی مختلف نہ ہوں گے۔ اور اگر ان میں معنی کا کوئی اختلاف ہوگا بھی تو صرف اجمال و  
تفصیل کا یا جزو اور کل کا ہوگا، نہ کہ اصل اور بیاد کا۔ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ  
آخری حدیث میں 'کفر بواح' سے مراد اعتقادی کفر کے علاوہ عملی کفر بھی ہے کیونکہ  
ایک ہی حالت کے اظہار و بیان کے لیے ایک جگہ 'ترک نماز' کے الفاظ لانا اور  
دوسری جگہ 'گھلے ہوئے کفر' کے الفاظ کا استعمال کرنا اس حقیقت کا صاف  
اعلان ہے کہ ترک نماز بھی 'کفر بواح' کی ایک متعین شکل ہے۔ پھر چونکہ نماز پڑھنا  
ایک عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے نماز کا قائم نہ کرنا ایک 'فعل' کا ترک  
ہے، کسی عقیدے کا ترک نہیں ہے۔ ایسی شکل میں ترک نماز کو بھی 'کفر بواح'  
کہا جاتا ہے۔

کہنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہاں کفر سے مراد کفرِ عملی بھی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس کفرِ بواح کے لیے **الْاِنَّ تَشْتَعُوْا**، **اِلَّا اَنْتُمْ سُنُّوْا** یا **الْاِنَّ تَعْلَمُوْا** (الآنکہ تمہیں معلوم ہو) کے بجائے **الْاِنَّ تَذُوْرُوْا** (الآنکہ تم دیکھو) کے الفاظ ارشاد ہوتے ہیں، تاکہ اس میں عملی کفر کا موجود ہونا پوری طرح نمایاں رہے۔

جب یہ بات واضح ہو چکی کہ اس حدیث میں 'کفر' سے مراد کفرِ عملی بھی ہے تو اب غور کرنے کی بات صرف یہ رہ جاتی ہے کہ کیا صرف نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جسے چھوڑ بیٹھنے کو عملی کفر کہا جاسکتا ہے، یا دوسرے ارکانِ دین کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے؟ اس مسئلہ میں دونوں ہی رائیں ہو سکتی ہیں، 'ہاں' کی بھی اور 'نہیں' کی بھی۔ 'ہاں' کی اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے ان اعمال کے چھوڑ بیٹھنے کو بھی عملی کفر سمجھا جاسکتا ہے، اور سمجھا گیا ہے۔ 'نہیں' کی اس لیے کہ جس صراحت کے ساتھ نماز کو کفر و اسلام کی حدِ فاصل، اور اس کے چھوڑ دینے کو عملی کفر فرمایا گیا ہے، اتنی صراحت کسی اور رکنِ دین کے بارے میں قرآن یا حدیث کے اندر نظر نہیں

آتی۔

اب پانچویں نوعیت کے بگاڑ کو دیکھیے۔ مملکت کے اسلامی کردار کا تحفظ نہ کرنے والے اور اس کے آئین و قانون میں غیر اسلامی عناصر داخل کرنے والے خلیفہ کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیئے، اس بات کا فیصلہ بنیادی طور پر یہ آیت کرتی ہے:

وَمِنْ تَوَجُّهَاتِكُمْ يَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاذْكُرُونَهُ

هُمُ الْكَافِرُونَ - (المائدہ: ۷۴)

• جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قوانین کے مطابق معاملات



کافیصلہ نہیں کرتے سو وہی کافر ہیں۔“

قرآن مجید کی یہ آیت صراحت کرتی ہے کہ اسلامی قوانین کو چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا عملی کفر ہے، غور کیجیے، اگر اسلامی قوانین کو چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا عملی کفر ہے تو مملکت کے آئین کو یا اس کے مجموعہ قوانین کے کسی حصہ کو غیر اسلامی اصول و قوانین سے بدل کر رکھ دینا کیا کچھ نہ ہوگا؟ کوئی شک نہیں کہ اگر وہ عملی کفر ہے تو یہ شدید ترین عملی کفر ہوگا۔ عملی کفر کا استحقاق خلافت کے معاملے پر جو اثر پڑتا ہے، اسے ہم ابھی جان چکے ہیں، اور وہ یہ کہ اب یہ استحقاق باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اس بگاڑ میں مبتلا ہو جانے والے کے بارے میں شریعت کافیصلہ اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے صاحب امر کو امارت کی مسند سے اٹھا کر دور پھینک دیا جائے۔ جیسا کہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ:

فلو طر علیہ کفر او تغیر للشرع او بدعة

خروج عن حکم الولاية وسقطت طاعته ووجب

على المسلمين القيامه عليه وخلعه و نصب امام

عادل ان امکنه وذلك۔

(شرح مسلم، للنووی، کتاب الامارۃ)

”پس اگر خلیفہ کفر میں مبتلا ہو جائے یا احکام شریعت کو

بدل ڈالے، یا بدعت اختیار کر لے تو حکومت کرنے کا سزاوار

نہیں رہ جاتا، اور مسلمانوں پر سے اس کی اطاعت کا فرض ساقط ہو

جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں

اسے معزول کر دیں، اور اس کی جگہ کسی اور عادل شخص کو مقرر کر لیں،

اگر ان کے بس میں ہو۔“

امام نووی قاضی صاحب کے ان لفظوں کو نقل کرنے کے بعد۔۔۔ اور

اس نقل کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ موصوف کی رائے بھی یہی ہے۔۔۔

مذکورہ بالا حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے ”لَا مَا صَلُّوا“ اور ”لَا مَا أَقَامُوا“

فِيكَ وَالصَّلَاةَ كَادَّعَا ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں:

فِيهِ مَعْنَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَالخُرُوجُ عَلَى

الْخِلْفَاءِ بِمَجْرَدِ الظُّلْمِ أَوِ الْفُسْطِ مَا لَمْ يَغْيُرُوا

شَيْئًا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ۔

دشرح مسلم للنووی، کتاب الامارۃ،

اس میں بھی وہی حقیقت بیان ہوتی ہے جو اوپر مذکور

ہو چکی، یعنی یہ کہ خلفاء جب تک اسلام کے بنیادی اور قطعی احکام

میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی جسارت نہ کریں اس وقت تک ان

کے محض ظلم اور فسق کی بنا پر ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہ

ہوگا۔“

ان توضیحات سے یہ بات پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ اسلامی قوانین

کو اگر کوئی خلیفہ غیر اسلامی قوانین سے کسی حد میں بھی بدل دیتا ہے تو اس کے بعد

خود اسے بھی بدل دیا جانا چاہیے۔

اب آخری اور چھٹی نوعیت کے بگاڑ کے متعلق کچھ کہنا بالکل غیر ضروری ہوگا۔

جب 'عملی کفر' ہی خلافت سے معزولی کو ضروری ٹھہرا دیتا ہے تو اعتقادی کفر کے بعد اس میں کسی تامل کی گنجائش ہی کہاں رہ سکتی ہے؟ اسلام اور ایمان تو استحقاق خلافت کی سب سے پہلی، سب سے ضروری اور ہر طرح سے متفق علیہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اس شرط پر پورا نہیں اترتا تو اس کے خلیفہ ہونے یا خلیفہ باقی رہنے کا سوال قطعاً خارج از بحث ہی نہیں بلکہ خارج از گمان بھی ہے۔ چنانچہ علماء نے پورے اتفاق راستے سے فرمایا ہے کہ مسلمان ایسے شخص کو خلافت کے اقتدار پر قابض کسی حال میں بھی نہیں دیکھ سکتے جس نے اپنا رشتہ کفر سے جوڑ لیا ہو۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ:

انہ ینعزل بالکفر اجماعاً فیجب علی کل مسلم

القیامہ فی ذالک فمن قوی علی ذالک.....

فله الثواب ومن داهن فعلیه الاثم ومن عجز

وجبت علیہ الهجرة من تلك الارض۔

..... (رفع الباری، جلد ۱۱، صفحہ ۱۰۱)

۱۰ خلیفہ کفر اختیار کر لینے پر خلافت سے معزول ہو جاتا ہے

۱۱ اس پر اجماع ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب

ایسی صورت پیش آئے تو اس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ جو

لوگ اپنے اس فریضے کو انجام دیتے جائیں گے انہیں ثواب ملیگا،

جو دہشت برتیں گے وہ گناہ گار ٹھہریں گے اور جو ارادے اور کوشش

۱۲ کے باوجود اس مہم میں شریک ہوتے سے مجبور ہوں گے ان کے لیے

ضروری ہوگا کہ اس سرزمین سے ہجرت کر جائیں۔“

ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اعمال و عقائد کے بگاڑ کی مذکورہ بالا چھ ممکن صورتوں میں سے پہلی تین کے اندر خلیفہ کے حق خلافت کو چیلنج کرنے کی شرعاً ممانعت ہے، اور آخری تین صورتوں میں اسے معزول کر دینے کی ہدایت

یہ اس ممانعت کے معنی یہ پر گز نہیں ہیں کہ خلفاء اور امراء کے پر ظلم، ہر فسق اور ہر حکم معصیت کو خاموشی کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے بلکہ حقیقت اس سے بہت کچھ مختلف ہے۔ شریعت نے اگر خون خرابے کے بڑے مفسدے سے بچنے کے لیے نسبتاً ان چھوٹے مفاسد کو انگریز کر جانے کی ہدایت فرماتی ہے، تو ساتھ ہی اس بات کی بھی زبردست تلقین کی ہے کہ جب بھی اہل حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی بُرائی سرزد ہوتی دیکھی جائے ان کی اصلاح کی پوری کوشش کی جائے، ان کے سامنے حق بات لائی جائے اور انہیں راہِ راست پر لانے کی ہر وہ پُر امن تدبیر لازماً اختیار کی جائے جو اختیار کی جاسکتی ہو۔ اور حضرت عبادہ بن صامت کی جو حدیث بایَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اِنْ غَزِرْكَ مِنْهُ اس کے باقی الفاظ یہ ہیں ”وَعَلَى اَنْ تَقُولَ يَا نَعَىٰ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ كَوْمَةً لَا يُسُوْ“۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جہاں خلفاء و امراء کی اطاعت کی اور ان کے منجسی اقتدار کو چیلنج نہ کرنے کی بیعت لی، وہیں اس امر کی بھی بیعت لی کہ، خواہ کوئی موقع ہو، کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئیں گے۔“

کلام کا یہ انداز اور سیاق صحاف بتاتا ہے کہ غلط کارِ امراء کے (باقی صفحہ ۱۳۹ پر)

یہ بات کہ بگاڑ کی ان تین صورتوں میں امام کی معزولی کیوں ضروری ہو جاتی ہے، غالباً کسی بحث اور دلیل کی محتاج نہیں۔ جیسا کہ اوپر کی سطروں میں بتایا جا چکا ہے، اسلام اور اہل اسلام کو حکومت کا نظام سجانے خود مطلوب نہیں ہے، بلکہ بعض اہم مصالح اور عظیم مقاصد کے حاصل کرنے کا وہ محض ایک لازمی ذریعہ ہے، اور ان مصالح و مقاصد میں سے بھی اولین اور بنیادی اہمیت شرعی قوانین کے نفاذ کو حاصل ہے۔ اب اگر اس حکومت کا سربراہ خدا نخواستہ اسلام ہی سے برگشتہ ہو جاتا ہے تو اس سے عام نظم و نسق کے چلانے کی توقع تو ضرور باقی رکھی جاسکتی ہے، لیکن یہ توقع خواب و خیال میں بھی نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنے اختیار و اقتدار کو، اپنی فکری

دقیقہ حاشیہ ۱۳۸ سے) بارے میں مسلمانوں کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ صرف اسی بات پر ختم نہیں ہو جاتا کہ وہ ان کی امارت کے خلاف قدم اٹھانے سے باز رہیں، معروف ہیں ان کی بدستور اطاعت کرتے رہیں اور ان کے ظلم و فسق پر صبر کریں، بلکہ اس کی حدیں ابھی اور آگے جاتی ہیں، اور وہ یہ کہ ان کے ظلم و فسق پر انہیں ٹوکیں بھی اور ان کے حکم معصیت پر انہیں قیامت سے ڈرائیں بھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات کی بار بار تلقین فرمائی ہے کہ جس طرح عام لوگوں کے بارے میں منکر سے روکتے رہنا مسلمان کا فریضہ ہے اسی طرح امارت و حکام کی غلط اور خلاف شرع حرکتوں پر نیکر کرنا، اور اگر اس کی جرأت نہ ہو تو ان پر دل سے نفریں بھیجنا اس کے مومن ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔

اور عملی قوتوں کو، اور اپنی منصبی کارکردگی کو اس مطلوب کے حاصل کرنے میں صرف کرے گا جسے اسلام اپنے نظام مملکت کے قیام کی بنیادی غایت قرار دیتا ہے۔ اس کے بخلاف پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی ساری طاقت اس کے خلاف ہی استعمال کرے گا۔ اس لیے کوئی شک نہیں کہ اس کے ہاتھوں سے زمامِ خلافت کا چھین لینا عین منشا سے اسلام ہوگا۔ کچھ ایسی ہی صورت حال باقی دونوں صورتوں میں بھی پیش آسکتی ہے، اور ایک حد تک تو لازماً پیش آکر ہے گی۔ جو شخص دین سے اس حد تک بے نیاز ہو چکا ہو کہ اس کی اہم ترین عملی بنیادوں سے بھی کوئی لگاؤ نہ رکھتا ہو، اور شریعت کے قوانین کو مفسوخ کر دینے میں بھی اسے کوئی باک نہ محسوس ہوتا ہو، اس سے یہ امید ہرگز نہیں رکھی جاسکتی کہ خلافت کے اصل مقصد کا وہ سچے دل سے وفادار رہے گا؟ اس سے یہ تو شاید ممکن ہو کہ ملک کو وہ اقتصادی حیثیت سے دولت کا گھرا، اور سیاسی حیثیت سے دنیا کا لیڈر بنا دے، مگر یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ اسے بندگی رب کا گہوارہ اور خیر و صلاح کا مرکز باقی رکھے گا، اور اس کے عام شہری اس کی رہنمائی میں نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے معروفت کی تلقین کرنے والے اور منکر سے ڈکنے والے بن سکیں گے۔ جب حقیقت یہ ہے تو بالکل واضح بات ہے کہ ایسے شخص کو اپنے اجتماعی نظام کا بدستور ذمہ دار بنانے رکھنا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو امن و حفاظت کی ذمہ داریاں سونپ دی جائیں۔

معزول کے مسئلے پر تمدنی ارتقاء کا اثر  
مملکت کے حکمران کو معزول کب اور کس طرح کیا جائے؟ واضح طور پر یہ

سیاسی نظم کا مسئلہ ہے۔ اور سیاسی نظام کا حال یہ ہے کہ اس کے بہت سے ضابطے اور طور طریقے ایسے ہوتے ہیں جن کی تعیین میں تمدنی حالات کا بھی بہت کچھ دخل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ ایک سی حالت پر نہیں رہتے۔ جب تک ملک کا تمدن ابتدائی منزل میں ہوتا ہے، اس کا حکومتی اور سیاسی نظام بھی بہت مختصر اور سادہ ہوتا ہے، اور اس نظام کے اصول و ضوابط بھی اپنے اندر بڑی محدودیت رکھتے ہیں۔ پھر جوں جوں تمدن آگے بڑھتا جاتا ہے، زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح سیاست کے ضابطے اور طور طریقے بھی بدلتے جاتے ہیں، اور مملکت کا نظام زیادہ اصول پسندانہ، زیادہ ترقی یافتہ، زیادہ وسیع اور زیادہ منضبط ہوتا جاتا ہے۔

اسلام ایک عالمی دین اور ابدی نظام حیات ہے، اس لیے حرکت اور نمو اس کی فطرت میں داخل ہے۔ تمدنی ارتقاء کا وہ نہ صرف یہ کہ ساتھ دینا چاہتا ہے بلکہ اس کی رہنمائی اور نگرانی کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ یہ اس کی منصبی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسلام کی یہ صلاحیت اور اس کی یہ حیثیت چاہتی ہے کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور تمدن کی پھلتی ہوئی ضرورتوں کو وہ ہمیشہ نگاہ میں رکھے، اور اپنے نظام سیاست کے ان ضابطوں اور طور طریقوں کو نیا آب و رنگ، بلکہ نئی شکل و صورت دیتا رہے جو بنیادی احکام اور اصولی ہدایات کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے اگر ایسے سیاسی ضوابط کو زمانے کی فراہم کی ہوئی آسانیوں کے مطابق بنالیا جائے تو یہ کوئی 'بدعت' نہ ہوگی، بلکہ عین 'سنت' ہوگی، اسلام سے تجاوز نہ ہوگا، بلکہ عین منشائے اسلام ہوگا۔

خلفاء کی معزولی کا مسئلہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ کیونکہ کسی خلیفہ کو کب تک خلیفہ باقی رکھنا چاہیے اور کب اور کس طرح ہٹا دیا جانا چاہیے، یہ بات قطعی طور پر سیاست کے انہی ضوابط میں شامل ہے جن کے تعین میں تمدنی حالات اور زمانے کے تقاضے بھی دخل رکھتے ہیں، اور جن کو دینی نظام میں اصول کی حیثیت حاصل نہیں ہے کہ ان میں کبھی کوئی تغیر ہو ہی نہ سکے۔ اس لیے آج، جب کہ دنیا کے تمدنی اور اجتماعی حالات، بارہ تیرہ صدی پہلے کے مقابلے میں کافی بدل چکے اور آگے بڑھ چکے ہیں اور حکومتوں کی تبدیلی میں بڑی آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں، یہ ایک اہم سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آیا خلفاء کی معزولی اب بھی صرف انہی تین حالتوں اور شکلوں تک محدود رہے گی جن کی اوپر کی بحث میں نشان دہی کی گئی ہے، یا بگاڑ کی باقی تین صورتوں میں سے بھی کسی صورت میں اس راستے کو اختیار کیا جاسکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک اور سوال کے جواب پر موقوف ہے، اور وہ یہ کہ کیا لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اور ان کے حقوق کی نگہداشت اسلامی ریاست کے مقاصد میں شامل ہے یا نہیں؟ اور کیا حکمران شخصیت کی سیرت و کردار اور اس کی ایمانی حیا کا بھی رعایا کی ذہنی تربیت پر، نیز ریاست کے مقاصد پر آنے پر کوئی اثر پڑا کرتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یقیناً اثبات ہی میں ہوگا، اور اس بارے میں ہرگز کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کے سامنے آجانے کے بعد پہلے سوال کا جواب بھی پردے میں نہ رہ جائے گا، اور وہ آپ سے آپ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ آج حکومتوں کو بدلنے کے جو پرامن جمہوری طریقے رائج ہو چکے ہیں، ان سے کام لے کر اسلامی مملکت کے



سربراہ کو اقتدار کی مسند سے اُس وقت بھی ہٹا دیا جاسکتا ہے، بلکہ ہٹا دیا جانا ضروری ہوگا، جب کہ وہ رعایا پر ظلم کرتا دیکھا جائے، یا فسق و فجور میں آلودہ نظر آئے، یا معصیت کے کاموں کا بھی حکم دیتا پایا جائے۔ کیونکہ اس طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس سے یہ توقع رکھنا بوالعقولی سے کم نہ ہوگا کہ اس کے ہاتھوں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو سکے گا، ان کے حقوق کی نگہداشت ہو پائے گی، ان کے ذہنوں کو بدی اور بے کرداری کی شہ نہ ملے گی، اسلامی ریاست کی حرمت و اقدار نہ ہوگی، اور اس کے جملہ مقاصد اچھی طرح پورے ہوتے رہیں گے۔ پھر ایسے شخص کو معزول کرنے اور اس کے شر سے دین و ملت کو محفوظ کر لینے کی طاقت اور سہولت رکھنے کے باوجود خلافت کی ذمہ داریاں بدستور اسی کے سپرد کیے رکھنا کوئی معقول بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا شریعت کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ گمان روا رکھا جاسکتا ہے کہ نظام خلافت کے مقاصد کو تو نقصان پر نقصان پہنچ رہا ہو، مگر وہ اپنے پیروں کو اس صورت حال کے ازالے کی راہ اختیار کرنے سے روکتی رہے گی، حالانکہ وہ عساف

کھلی دکھائی دے رہی ہو؟

اس سلسلے میں ان حدیثوں کے الفاظ سے کوئی الجھن یا غلط فہمی نہ ہونی چاہیے جن میں سے بعض کے حوالے اوپر گزر چکے ہیں، اور جو اس امر کی واضح ہدایت دیتی نظر آتی ہیں کہ جب تک خلیفہ ترک نماز کا یا کھلے ہوتے کفر کا ترکب نہ ہو اس کے خلاف قدم اٹھانا ممنوع ہے، بلاشبہ ان احادیث سے ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے کہ۔ لیکن یہ ہدایت جس مصلحت کی بنا پر دی گئی ہے، اسے نظر انداز کر کے

ان احادیث کا اصل منشا اور ظالم و فاسق امراء کے بارے میں شریعت کا حقیقی نقطہ نظر پوری طرح ہرگز نہ سمجھا جاسکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مصلحت کو معلوم کر لیا جائے۔ اس غرض کے لیے امام نووی کا یہ واضح بیان بالکل کافی ہوگا۔

اجمع اهل السنة انه لا يعزل السلطان بالفسق

..... قال العلماء وسبب عدم العزل وتحريم الخروج

عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقتة الدماء

وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله اكثر

منها في بقاءه۔ (مشروح مسلم، کتاب الامارۃ)

اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حکمران فسق کی بناء

پر معزول نہیں ہو جاتا۔۔۔۔۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس معزول نہ ہو

جانے اور ایسے حکمران کے خلاف کسی بغاوت کے حرام ہونے کی

وجہ وہ فتنہ و فساد، خون خرابہ اور وہ باہمی کشاکش ہے جو اس

اقدام کے نتیجے میں برپا ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے معزول کر دینے کی

جدوجہد کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والی یہ خرابی اس کے خلیفہ باقی رہنے

کو خرابی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔“

یہ تو فاسق امراء کا مسئلہ رہا۔ ٹھیک اسی طرح کی بات علماء نے ظالم امیروں کے

بارے میں بھی فرمائی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام سے واقف ہوگا،

وہ اس کے سوا اور کوئی مصلحت اس ممانعت کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس

بات کو ایک حقیقت تسلیم کر لینے میں کوئی تردد نہ ہونا چاہیے کہ بگاڑ کی جن صورتوں

میں امراء کے خلاف اقدام کرنے سے منع کیا گیا ہے، صرف بد امنی، خانہ جنگی اور خون ریزی کے اندیشے ہی کی بنا پر منع کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ ممانعت مطلق ہمہ گیر اور ابدی قطعاً نہیں ہے۔ گویا صورت واقعہ یہ ہے کہ شریعت کے نزدیک یہاں دو ناگزیر بلاؤں میں سے ایک کو لازماً اختیار کرنے کا معاملہ تھا، یا تو صاحب امر کے ظلم اور فسق کو گوارا کیا جائے، یا پھر اسے طاقت کے زور سے ہٹائے جانے کی شکل میں خانہ جنگی اور خون خرابے کے عذاب کو برداشت کیا جائے۔ اس نئے و نئی بلا کو، جیسا کہ عقل سلیم چاہتی ہے، زیادہ سخت اور پہلی کو اس کے مقابلے میں کم سخت قرار دیا، اور اس لیے یہ ہدایت دی کہ اسے کلمبے پر پتھر رکھ کر انگیز کیا جائے، اور اس کے ازالے کے لیے قائم شدہ حکومت کے خلاف قدم اٹھا کر مملکت کو نراج کی، اور عام مسلمانوں کو قتل و غارت کی بھینٹ چڑھانے کی بدتر مصیبت کو مول نہ لیا جائے۔ جب کہ کفر عملی، یا د کفر اعتقادی، کی حیثیت اس کے نزدیک اس کے برعکس تھی۔ کیونکہ امراء کی خرابیاں اور عدالتیں خلافت کے مقاصد کو صرف نقصان ہی نہیں پہنچاتیں، بلکہ ان کا گلا گھونٹ دینے والی ہوتی ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ مقاصد مسلمان کے خون سے کم نہیں، زیادہ قیمتی ہیں۔ اس لیے یہ بلا شریعت کی نظر میں زیادہ سخت، اور اس کے مقابلے میں بد امنی اور خون خرابے کی بلا کم سخت ٹھہری تھی۔ جس کا فطری تقاضا یہی تھا کہ اس کے رونا ہو جانے کی شکل میں وہ صاحب امر کے خلاف اقدام کی ممانعت کو واپس لے لیتی۔

اب جب کہ یہ بات ایک حقیقت کی حیثیت سے ہمارے سامنے آچکی کہ ظالم اور فاسق امراء کے خلاف قدم اٹھانے کی ممانعت صرف خانہ جنگی اور خون ریزی

کی مصیبت سے بچنے کے لیے کی گئی ہے، تو اسے بھی ایک حقیقت ہی ماننا پڑے گی کہ جہاں عملاً اس مصیبت کے برپا ہو جانے کا اندیشہ موجود نہ ہو وہاں یہ ممانعت بھی باقی نہ رہ جاتے گی۔ اور اگر ہنگامے اور خون خرابے کے بغیر ہی حکومت کو بدل دینے کا موقع حاصل ہوگا تو ایسی حالت میں ظالم و فاسق حکمرانوں کو منصبِ حکومت پر باقی رکھنا کسی طرح صحیح نہ ہوگا۔ اس وقت عقل اور شریعت دونوں کا تقاضا صرف یہ ہوگا کہ انہیں اپنے منصب سے لازماً ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؒ کا بیان ہے کہ:

نقل ابن التین عن الداؤدی قال الذی علیہ  
العلماء فی امداء الجودانہ ان قدر علی خلعه  
بغیر فتنۃ ولا ظلم ووجوب والا فالواجب الصبر۔

(فتح الباری - جلد ۱۳ - صفحہ ۶)

ابن التین نے داؤدی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ظالم امراء کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر انہیں کسی فتنے اور ظلم کے پاپہونے بغیر معزول کیا جاسکتا ہے تو ایسا کر ڈالنا واجب ہے، ورنہ واجب یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ اسی طرح امام نوویؒ بعض دوسرے علماء کی یہ وصاحت نقل کرتے ہیں کہ:

اما قولہ "اصبروا" فذالك حيث يلزم

من ذالك سفك الدماء واثارة الفتنة ونحو

ذالک - دمسلم، کتاب الایمان

” رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”صبر سے

کام لو“ تو اس کا تعلق ایسے حالات سے ہے جب کہ دامیر

کے خلاف، اس اقدام سے خوزیزی یافتہ و فساد یا کسی

طرح کی کوئی اور بلا تے عام پھوٹ پڑنے والی ہو۔“

غرض ظالم اور فاسق امراء کی معزولی کے بارے میں علمائے اسلام کا، جیسا کہ

چاہئے عام خیال یہی ہے۔ بلاشبہ آج سے ہزار بارہ سو برس پہلے کیا، ابھی

ماضی قریب تک کے زمانوں میں بھی، صورت حال بالعموم یہی تھی کہ حکومتوں کی

جبری تبدیلی آسان نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ اس وقت اس طرح کی ہر کوشش ملکی

امن و امان کو آگ لگا دینے کے ہم معنی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ظالم اور فاسق حکمرانوں کے معاملے میں تلقین بھی قدرتی طور پر، صبر و تحمل ہی سے

کام لینے کی فرمائی۔ لیکن اس وقت اگر یہ صورت حال باقی نہیں رہ گئی ہے تو

تسلیم کرنا چاہئے کہ اس تلقین و ہدایت پر عمل کرنے کا موقع و عمل بھی باقی نہیں رہ

گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ زمانے میں ووٹوں کے ذریعہ حکومت کے

ممبرانہ منتخب کرنے کا، اور پھر بوقت ضرورت معزول کر دینے کا جو جمہوری طریقہ

راج ہو چکا ہے، اس سے کام لینا عین طریق اسلام اور عین تقاضائے دین ہو گا۔

جہاں بھی اس طریقے سے کام لینے کی آسانیاں حاصل ہوں، مسلمانوں کے اہل

حل و عقد کا یہ فرض ہو گا کہ اس سے ضرور کام لیں۔ جب بھی ان کا امیر منصب

خلافت کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کرنے میں ناکام ثابت ہو اسے

علیحدہ کر دیں، اور اس کی جگہ کسی اہل شخص کو لا مقرر کریں۔ کیونکہ اس طریقے سے حکومت کو بدل لینے میں نفلتے، یدامنی اور خون ریزی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں دو بلاؤں \_\_\_\_\_ ظالم اور فاسق حکمران کو گوارا کرتے رہنے کی بلا، یا خانہ جنگی اور خون خرابے کی بلا \_\_\_\_\_ میں سے کسی ایک کو لازماً اختیار کرنے کا معاملہ ہے ہی نہیں کہ خون خرابے کی بلا کے مقابلے میں ظالم حکمران کے وجود کی بلا کو انگیگ کر کے رہنے کا سوال پیدا ہو۔

پھر ضرورت صرف اسی بات کی نہیں ہے کہ خلیفہ جب کسی غلط کاری کا مظاہرہ کرے تو پارلیمنٹری طریق پر اسے امارت کے منصب سے ہٹا دیا جائے، بلکہ اس بات کی بھی ہے کہ چاہے اس کی طرف سے کسی ظلم یا کسی فسق یا کسی طرح کی کسی اور اہم غلط کاری کا مظاہرہ نہ ہوا ہو، پھر بھی اس کے سلسلہ امارت کے جاری رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں ایک معقول مدت کے بعد لوگوں کی رائیں معلوم کی جاتی رہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ امیر سے چاہے کوئی قابل لحاظ کوتاہی سرزد نہ ہوتی ہو کہ اس کا ہٹا دیا جانا ضروری ہو، مگر بہت ممکن ہے کہ اس مدت میں ملت کے اندر سے کوئی اور شخصیت ابھر کر سطح پر آگئی ہو جس کی صلاحیتوں پر لوگوں کو نسبتاً زیادہ اعتماد ہو، اور انہیں یہ توقع ہو کہ اگر موجودہ امیر کی جگہ اس شخص کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپ دی جائیں تو وہ انہیں زیادہ بہتر طریقے پر انجام دے سکے گا۔ ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ حکومت کو بدل نہ دیا جائے، اور محض اس بنا پر کہ ایک شخص کو پہلے اس منصب کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے اور اس کی خلافت منعقد ہو چکی ہے، دوسرے انفرادی بہتر

صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جاتے۔ کیونکہ یہاں جو کچھ اہمیت سے، خلافت، خلافت کے مقاصد اور اس کی ذمے داریوں کی ہے، کسی شخصیت کی اور اس کے کسی حق کی نہیں ہے۔ زیادہ واضح لفظوں میں یہ کہ اسلام میں حکومت اور امامت اصلاً صرف ذمہ داری ہے، حق ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص کو خلافت کے منصب سے ہٹایا جاتا ہے تو اس سے اس کا کوئی حق نہیں چھینتا کہ وہ اس کی شکایت کرے۔ بلکہ اس کے سر سے ایک بھاری ذمہ داری اتار لی جاتی ہے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ شریعت کے منشا اور خلافت کے مقصد کا تقاضا تھا۔

## نظامِ خلافت کی وحدت

چونکہ نظامِ خلافت کی ضرورت، اہمیت اور نوعیت، سب کچھ اصلاً دینی ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ تمام تر دینی ہے، اس لیے اسلامی آبادیوں (دارالاسلام) کی حدیں چاہے کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو جائیں، سارے مسلمانوں کا خلیفہ اور امام ایک ہی ہوگا، اور مختلف خطوں میں الگ الگ حکومتیں اور خلافتیں قائم کر لینا صحیح نہ ہوگا۔ علامہ ماوردی لکھتے ہیں کہ :-

لا یجوز ان یکون للامۃ امامان فی وقت

واحد۔ (الاحکام السلطانیہ۔ صفحہ ۷۷)

”یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں امت

کے دو خلیفہ ہوں۔“

اس بارے میں بعض اگے دگے افراد کو چھوڑ کر پوری امت یک رائے

ہے۔ امام نووی کے بقول :-

اتفق العلماء علی انہ لا یجوز ان یعقد لخلیفتین

فی عصر واحد سواء اتسعت دارالاسلام م لا۔

(شرح مسلم، کتاب الامارۃ)

« علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ، دارالاسلام کی حدیں

چاہے وسیع ہوں یا غیر وسیع ایک ہی زمانے میں دو آدمیوں

کی خلافت کا قیام جائز نہیں ہے۔ »

شرعیات نے اس اصول کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے۔ اس کے  
نزدیک وہ شخص گردن زدنی ہے جس کے ہاتھوں پر ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے  
خلافت کی متوازی بیعت کر لی گئی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد  
ہے کہ :-

اِذَا بُوِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقتُلُوا الْاٰخِرَ مِنْهُمَا۔

(مسلم - کتاب الامارۃ)

« اگر خلافت کی بیعت دو آدمیوں کے ہاتھوں پر کر لی جائے

تو بعد والے شخص کو قتل کرو ورنہ اگر اس کی نام نہاد خلافت کا فتنہ

کسی طرح ختم نہ ہو سکے گا۔ »

غرض وحدت، اسلامی نظام سیاست کا ایک مسلم اور بڑا اہم اصول

ہے، اسلام امت کے لیے بیک وقت ایک سے زائد اجتماعی نظاموں

کے وجود کو پوری شدت کے ساتھ رد کرتا ہے۔ اور اگر کیسے تو معلوم ہو گا کہ



اسے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا۔ کیونکہ یہ اس کے مزاج کا تقاضا تو تھا ہی، اس کے مشن کا، اور اس کے خلافتی نظام کے مقاصد کا بھی تقاضا ہی تھا۔ جیسا کہ پچھلے صفحات میں تفصیل سے معلوم ہو چکا، اسلام نے اپنے پیروؤں کو خلافت کا نظام قائم کرنے کی ہدایت اس لیے نہیں دی ہے کہ اس طرح دنیا کے سیاسی مطلع پر وہ بھی نمایاں رہیں گے، یا ان کی حوصلہ مند شخصیتوں کو اپنے جذبہ حکمرانی کی تسکین کا موقع مل جائیگا، یا ان کے مختلف وطنی اور نسلی گروہ اپنے اپنے قومی 'انا' کو بلند کرنے کی خواہش پوری کر لیں گے۔ اس کے بخلاف اس نے یہ ہدایت صرف اس لیے دی ہے تاکہ وہ خود حکمران بن کر رہے، انسانی زندگی پر اس کے قوانین کا نفاذ ہو۔ اس کے مشن کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا جاسکے، اس کی اور اس کی پیرو ملت کی دشمنوں سے حفاظت ہو، اور اس کے غلبہ و اقتدار کی حدیں پھیلتی رہیں۔ ایسی حالت میں اگر پوری امت مسلمہ ایک گروہ، ایک قوم اور ایک سیاسی وحدت ہونے کے بجائے متعدد سیاسی وحدتوں میں بٹی رہے، اور اس طرح پورا دارالاسلام عملاً مختلف ریاستوں اور حکومتوں میں تقسیم ہو جائے، تو یہ اسلام کے قومی ہونے کی نہیں بلکہ کمزور ہونے کی علامت ہوگی۔ یہ امت کے شیرازہ بند اور متدرہ ہونے کی نغی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی رسی کے علاوہ کچھ اور بھی رشتے ہیں جو اس کے حلقوں میں اتحاد و اجتماع کا مرکز ہونے کی حیثیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اب یہ ملت اندر سے پھٹ چلی ہے، اس لیے کفر و ضلال کے مقابلہ میں تین واحد نہ ثابت ہو سکے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت حال ان مقاصد کو غیر معمولی نقصان پہنچائے گی جن کے خلافت کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے اسلام نے سب سے

پر اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مسلم دنیا، پوری کی پوری ایک ہی اسٹیٹ ہونے کے بجائے کئی اسلامی مملکتوں کی "کامن ولٹھ" بھی بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس اس نے ضروری قرار دیا کہ ایک ہی مشن کی علم بردار اُمت کو سیاسی طور پر بھی ایک ہی اُمت اور ایک ہی قوم رہنا چاہیے۔

رہا یہ سوال کہ پوری اُمت کے سیاسی طور پر بھی ایک ہی اُمت اور ایک ہی قوم بن کر رہنے کی انتظامی شکل کیا ہوگی؟ یعنی اس کا حکومتی نظام وحدانی قسم کا ہوگا یا وفاقی؟ تو اس بار سے میں دین کا عام مزاج، اس کی اجتماعی ہدایتوں کا رخ، مقاصدِ خلافت کا مفاد اور خیر القرون کا طرزِ عمل، سب کے سب وحدانی طرزِ حکومت ہی کا فیصلہ دیتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم اس امر واقعی کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے کہ اس فیصلے کا تعلق لازماً ایک ایسی صورتِ حال سے ہے جب کہ سارے مسلم علاقے جغرافیائی طور پر آپس میں ملے ہوئے ہوں اور ان کا سیاسی اقتدار بھی مسلمانوں کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہو۔ یا جغرافیائی طور پر آپس میں ملے ہوئے ہونے کے باوجود ان کے ایک ہی حکومتی نظم و نسق کے تحت رہنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صورتِ حال یہ نہ ہو، یعنی سارے مسلم علاقے جغرافیائی طور پر آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، بلکہ ان کے درمیان ایسی غیر مسلم مملکتیں اور حکومتیں جائل ہوں جو ان اسلامی ممالک کو عملاً ایک وحدانی طرزِ حکومت کے تحت رہنے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہوں، یا یہ سارے علاقے آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں مگر ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں جو غیر مسلموں کے محکوم ہو چکے ہوں اور اس وجہ سے آزاد و

خود مختار مسلم علاقے جغرافیائی طور پر آپس میں کٹ کر رہ گئے ہوں  
تو ایسی صورتوں میں اس فیصلے پر اصرار نہ کیا جاسکے گا۔ یہ نہ صرف عملی ضرورت ہی  
کا تقاضا ہے بلکہ بعض نصوص سے بھی ہمیں اسی طرح کی رہنمائی ملتی ہے۔

قبیلہ عبد القیس جب اسلام کا حلقہ بگوش ہوا تو اس کے ایک وفد نے  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی:

”اے اللہ کے رسول، ہمارے وطن اور آپ کے وطن

کے درمیان مقرر کے کفار جاہل ہیں۔ اس لیے ہم جب چاہیں  
آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہدایتیں نہیں لے سکتے، بلکہ صرف  
حجرت کے خاص مہینوں ہی میں اس کا موقع مل سکتا ہے، اس  
لیے آپ ہمیں (ضروری) ہدایتیں اور احکام دے دیجیے، تاکہ  
ہم ان پر عمل کرتے رہیں اور پھر واپس جا کر دوسروں کو ان کی دعوت  
دیں۔“

آپ نے وفد کی گزارش کے جواب میں جو کچھ فرمایا اور جن امور کی تلقین کی

ان میں سے ایک یہ بھی تھا:

وَإِن تَوَدُّواْ خَيْرًا مَّا غَنِمْتُمْ۔ (مسلم، جلد اول، کتاب الایمان)

”تمہیں غنیمت کا جو مال ملے، اس کا پانچواں حصہ ادا کرتے رہنا۔“

غور کیجیے، اس ارشاد کا ذہنی پس منظر کیا رہا ہوگا؟ یقیناً یہی کہ یہ لوگ قبائلِ مقرر

کے کفار سے اپنی صوابدید کے مطابق جہاد کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اور مرکزِ اسلام سے

انہیں اس کے لیے بروقت حکم دیا جانا ضروری نہ ہوگا حالانکہ کسی بھی وحدانی نظامِ حکومت

میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک کے کسی حصے میں کوئی جنگی کارروائی مقامی ذمہ دار اسی  
 وقت کر سکتے ہیں جب کہ مرکز کی طرف سے انہیں ہدایت موصول ہو چکی ہو۔ اس  
 لیے قبیلہ معبد القیس کو آپ نے بطور خود جنگی اقدامات کرتے رہنے کی جو منظوری  
 عطا فرمائی، اس سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ حالات اگر رکاوٹ ڈال رہے ہوں  
 تو اسلامی مملکت کا نظام وحدانی طرز کے بجائے وفاق طرز کا بھی بنایا جاسکتا ہے  
 کیونکہ قبیلہ مذکور کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا اختیار، اور وہ بھی  
 صلح و جنگ جیسے اہم مسائل میں دیدیا تھا وہ اختیار و مرتبے میں ان اختیارات سے  
 کسی طرح کم نہ تھا جو کسی وفاق نظام میں صوبائی حکومتوں کو حاصل ہوا کرتے ہیں۔  
 اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ اصل اور معیاری طرز حکومت تو وحدانی طرز  
 ہی ہے، لیکن مصالح کے پیش نظر وفاق طرز کو بھی اپنایا جاسکتا ہے۔

# ملی انتشار میں دینی تقاضے

## نظم اجتماعی کی بحالی کی ضرورت

اُمتِ مسلمہ کے لیے ایک منظم اجتماعی زندگی جس حد تک ضروری ہے، اور جس لیے ضروری ہے، پچھلے مباحث نے ہم پر یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کوئی گروہ ہمیشہ اپنی مطلوبہ حالت ہی میں باقی و کار فرما نہیں پایا گیا ہے۔ اس لیے یہ ملت بھی ایسے حالات سے دوچار ہو سکتی ہے جب وہ اپنی اس ضروری ہئیتِ اجتماعیہ سے محروم ہو چکی ہو، جب وہ ایک منظم اور منضبط جماعت رہنے کے بجائے افراد کی بس ایک بھڑین گئی ہو، جس میں نہ کوئی شیرازہ بندی ہو نہ کوئی اجتماعی حرکت ہو، اور اس لیے عملاً اس کا وہ مقصد بھی باقی نہ رہ گیا ہو جس کے لیے وہ وجود میں آئی تھی۔ ————— جیسا کہ آج ایک مدت سے اس کا یہی حال فی الواقع ہو بھی چکا ہے۔ ————— ایسی صورت حال کے بارے میں یہ کہنا کہ اسلام کے نزدیک وہ سخت ناپسندیدہ بلکہ

ناقابل برداشت ہے، ایک غیر ضروری بات ہوگی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی صورت حال کے بارے میں یہ بات کہ پھر اس شکل میں انسدادِ ملت کو کرنا کیا چاہیے، اتنی واضح اور روشن نہیں ہے۔ اس لیے نظری اور عملی، ہر حیثیت سے ضروری ہے کہ اس اہم ترین سوال کا صحیح جواب معلوم کیا جائے۔

پہلے اس سوال کا عقلی جواب متعین کیجئے۔

اوپر کے سارے مباحث ہمارے سامنے ہیں۔ ان مباحث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت \_\_\_\_\_ انتہائی ٹھوس، منظم اور منضبط اجتماعیت \_\_\_\_\_ اسلام کے لیے فطرۃً مطلوب، اور عملاً ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر امت مسلمہ، امت مسلمہ بن کر رہ سکتی ہے، نہ اسلام نوع انسانی کو وہ سب کچھ دے سکتا ہے جسے دینے کے لیے وہ آیا ہے۔ اس کے بے شمار احکام جن کا تعلق انسانی زندگی کے اہم ترین مسائل تک سے ہے، صرف کتابت اور تلاوت کے لیے وقت ہو کر رہ جاتے ہیں، اور عملی دنیا میں ان کے نافذ اور قابل اتباع ہونے کی کوئی شکل بن ہی نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ ہم واضح اور قطعی دلائل کی روشنی میں دیکھ چکے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ عقل ان ساری باتوں کا تقاضا کیا ٹھیراتی ہے؟ یہی، یا اس کے سوا کچھ اور، کہ یہ ملت دیکھو، اسے پھر جماعت بنے، ایسی جماعت جس میں نظم و اتحاد ہو، ایک زندگی و یک حرکتی ہو، اور جسے "الجماعۃ" کہہ سکیں، اور جو اپنے مقصد جو کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے، کوئی شک نہیں کہ عقل کا فیصلہ اور تقاضا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد اس سوال کا شرعی جواب معلوم کیجیے، اور یہی جواب فی الواقع

اصل جواب ہو گا۔

اس غرض سے ہم جب کتاب الہی اور سنت رسول کی طرف رجوع کرتے

ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے قرآن حکیم کی یہ ہدایتیں آتی ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ

اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا - آل عمران: ۱۰۲-۱۰۳

”اے ایمان والو،..... اللہ کی رسی کو تم سب کے سب

مضبوط پکڑ لو اور علیحدہ علیحدہ نہ رہو۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خُلُوفِ السُّلُو

كَافَّةً - (بقرہ: ۲۰۸)

”اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی اطاعت میں تم سب

کے سب داخل ہو رہو۔“

پہلی آیت کا منشا زیر بحث مسئلہ کے مخصوص میں بالکل واضح ہے۔ وہ براہ

راست یہی ہدایت دیتی ہے کہ سارے مسلمانوں کو متحد و منظم رہنا چاہیے، اور

ضروری ہے کہ اللہ کی رسی، انہیں، یا ہم مضبوطی سے جوڑے ہوتے ہو۔ یہی

دوسری آیت، تو بالواسطہ وہ بھی اسی فریضے کی تلقین کر رہی ہے۔ کیوں کہ

ایک ایک فرد مسلم کا اللہ اور رسول کی کٹی اور غیب مشروط اطاعت میں اپنے

آپ کو دے دینا اس بات کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہنے دے سکتا کہ ملت

پھر بھی غیر منظم حالت میں رہ جاتے۔ سارے کے سارے مسلمان اگر دین حق کو

اپنی زندگیاں حوالہ کر دیں۔۔۔۔۔ اس دینِ حق کو جو معاشرے کے لیے ایک منظم جماعتی زندگی گزارنا ضروری قرار دیتا اور اس کے لیے سمع و طاعت کے تفصیلی احکام دیتا ہے۔۔۔۔۔ تو اس کا حاصل لازماً یہی ہوگا کہ مسلم معاشرہ "سیسہ پلائی ہوتی دیوار" بن جائے۔ اس لیے آیت کا غشا بالواسطہ یہ بھی ہے کہ ملت اگر پوری طرح متحد و یک رنگ نہ ہو تو لازماً متحد و یک رنگ ہو جائے۔

یہ ہدایتیں عام اور ہمہ گیر ہدایتیں ہیں۔ یہ کسی خاص حالت، یا کسی خاص وقت یا کسی خاص مقام و ماحول کے لیے کسی طرح بھی مخصوص نہیں۔ جب بھی، اور جہاں کہیں بھی، مسلمانوں کا کوئی چھوٹا یا بڑا گروہ موجود ہوگا، وہ ان ہدایات کا مخاطب ہوگا اور ضروری ہوگا کہ وہ انہیں سُننے اور اپنے مقدور بھراؤ پر عمل کرے ان آیتوں کے اندر کوئی معمولی سا بھی تشریح ایسا نہیں جس سے یہ خیال کیا جاسکتا ہو کہ یہ ہدایتیں صرف صحابہ کرام کے لیے تھیں۔ اس لیے ان احکامِ خداوندی کے مخاطب و مملکت ہر دور کے مسلمان ہوں گے، چاہے وہ پہلی صدی ہجری کے مسلمان ہوں جب کہ امت مسلمہ جل اللہ کے شیرازے میں پوری طرح کسی بندھی تھی، چاہے اس چودھویں صدی ہجری کے مسلمان ہوں جب کہ اس شیرازے کی دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ بلکہ سچ پوچھیے تو ان احکام کا خطاب عینی اہمیت اور شدت کے ساتھ اس دورِ نینم و اتحاد کے مسلمانوں سے تھا، اس سے کہیں زیادہ اہمیت اور شدت کے ساتھ اس دورِ افتراق و انتشار کے مسلمانوں سے ہوگا۔ کیونکہ ان احکام کی عملی حیثیت و اہمیت اُن کے لیے توفی الواقع ایک



تلقین احتیاط سے کچھ ہی زیادہ تھی، جب کہ ان کے لیے حکم اور وصیت سے بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک نڈھال مریض کے لیے تندرست آدمیوں کے مقابلے میں حفظانِ صحت کے اصولوں کا لحاظ بہر حال کہیں زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کلام اللہ کے بعد کلام رسول کی طرف آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملی اختلاف و انتشار کی حالت کا براہِ راست تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدَ فَسَاوِي اٰخْتِلَافًا كَثِيْرًا  
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ  
الْمُهْدِيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ  
(ابوداؤد، جلد دوم، کتاب السنۃ)

”جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ اُمت میں بہت سارے اختلافات برپا ہوتے دیکھیں گے۔ ایسے وقت میں تمہارے لیے ضروری ہو گا کہ ”میری سنت“ اور میرے برسرِ پدائیت اور پرِ وِحق ”خلفاء کی سنت“ کو مضبوطی سے تھامے اور دانتوں سے پکڑے رہو۔“

یاد رہے کہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک جامع اور اصولی ہدایت ہے۔ یہ ایک ایک مسلمان کا شانہ پکڑ کر تلقین کرتی ہے کہ دیکھو، اُمت میں جو بھی، اور جس طرح کا بھی، کوئی اختلاف رونما ہو اس وقت ”رسولِ خدا کی سنت“ اور ”خلفائے راشدین کی سنت“ پر مضبوطی سے جم جانا، ورنہ اس کے سوا

کوئی روش نہ ہوگی جو تمہارے لیے صحیح ایمانی روش کہی جاسکے۔

اس حدیث میں "سنت" کے لفظ کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں اس لفظ کا وہ محدود مفہوم نہیں ہے جو ایک فقہی اصطلاح کی حیثیت سے اس کا ہوا کرتا ہے، اور جو عام طور سے معروف و متعارف ہے۔ اس حقیقت کی سبب سے واضح دلیل خود اسی حدیث کے لفظوں میں موجود ہے۔ اس حدیث میں صرف "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي" کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ "وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ" کے الفاظ بھی ہیں یعنی اختلافات کے وقت "سنتِ رسول" کے ساتھ ساتھ "خلفائے راشدین" کی سنت کو بھی دانتوں سے پکڑے رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ فقہی اصطلاح میں جس چیز کو سنت کہتے ہیں اس کا اطلاق صرف انہی باتوں پر ہو سکتا ہے جن کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال سے ہو، نہ کہ ان باتوں پر بھی جن کا تعلق اصلاً خلفائے راشدین یا کسی اور صحابی کے اقوال و اعمال اور اجتہادات سے ہو۔ اس لیے اس حدیث میں سنت کا وہی وسیع مفہوم ہے جو از روئے کُفْتِ اس لفظ کا ہونا چاہیے، یعنی طریقہ اور روش، جیسا کہ بے شمار حدیثوں میں یہی مفہوم اس لفظ کا لیا گیا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جب بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، اکثر و بیشتر اسی معنی و مفہوم میں استعمال فرمایا ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی کے، اور خلفاء راشدین نے بحیثیت خلفاء راشدین کے،

زندگی کے جس معاملے میں بھی جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کی اور حضرات خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ خواہ اس کا تعلق عبادتی امور، معاشرتی اداب اور تمدنی طور طریقوں سے ہو، خواہ سیاست و اجتماع کے وسیع تر مسائل سے۔

اس وضاحت کی روشنی میں ارشاد نبوی کا مدعا یہی قرار پائے گا کہ میں تمہارے سامنے دین کی پیروی، اس کی اقامت، اور اس کے جملہ تقاضوں کی انجام دہی کے سلسلے میں جو کچھ کر رہا ہوں، اور میرے بعد میری ہی پیروی میں خلفائے راشدین جو کچھ کریں گے، تمہارا فرض ہوگا کہ تم بھی وہی کچھ کرنا، خصوصاً جب امت میں اختلافات سر اٹھالیں، اس وقت تو اس امر کی ضرورت اور شدید ہو جائے گی۔

غور فرمائیے، امت کا اجتماعیت سے محروم ہو رہنا کون سی حالت ہے؟ کیا یہ حالت اختلاف نہیں؟ بلاشبہ یہ حالت اختلاف ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کی حالت ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس کے اظہار و بیان کے لیے اگر کوئی تعبیر موزوں ہو سکتی ہے تو صرف یہی کہ یہ بے شمار اختلافات کی پیدا کی ہوئی آخری بدترین حالت ہے۔ اس لیے اگر کسی ایک اختلاف کے رونما ہو جانے پر آپ کی اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت، کو دانتوں سے پکڑ لینا ضروری ہے تو بے شمار اختلافات کا بدترین نتیجہ سامنے آچکنے پر اس ہدایت کی پیروی یقیناً ضروری سے ضروری تر ہو جائے گی۔

اب آئیے دیکھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت، اس طرح کے کسی معاملے میں کیا رہی ہے؟ یا کم از کم یہ کہ اصولاً کیا ہو سکتی تھی؟

اس سلسلے میں جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے، آپ کی کوئی ایسی سنت، اور طریق کار تو ہم پا ہی نہیں سکتے جس کا مٹی پر آگندگی کی حالت سے براہ راست تعلق ہو۔ کیونکہ آپ کے مبارک دوز میں اس نامبارک حالت کے پائے جانے کا کوئی عملی امکان تھا ہی نہیں۔ اس لیے آپ کے اُسوے اور آپ کی سنت میں اس بات کی تلاش بھی بے وجہ اور فضول ہی ہوگی کہ مٹی انتشار اور بے نظمی کی کسی حالت میں آپ نے کیا کیا تھا؛ آپ کا سارا کام صرف ایک ہی اُمت کی تشکیل تھا۔ اس لیے مٹی انتشار کے مواقع کے لیے ہمیں جو رہنمائی مل سکتی ہے وہ آپ کے اسی اُسوے اور طریق کار سے ماخوذ رہنمائی ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا اس غرض کے لیے بھی ہمیں صرف یہی دیکھنا ہوگا کہ اُمت کی تشکیل آپ نے کس طرح کی تھی؛ پھر جو کچھ، اور جیسا کچھ آپ کو ہم اس سلسلے میں کرتا ہوا پائیں گے اسی سے اُمت کی تنظیم جدید کے لیے بھی کسبِ ہدایت کریں گے، اور یہی حالت اختلاف میں آپ کی سنت، کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ یہ بات کہ آپ نے اُمت کی تشکیل کس طرح کی تھی کسی تفصیلی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہر واقعہ حال جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی بات کو کافی نہیں قرار دے لیا تھا کہ لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کر لیں اور پھر اپنے اپنے طور پر نماز روزہ ادا کرتے رہیں، بلکہ آپ کی دعوت کے لوازم و مضمرات اس سے بہت اگے تک کے تھے۔ آپ نے وَأَعْتَبُكُمْ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا كَمَا جُمِعْتُمْ يَوْمَ بَدْرٍ کے اقرار دیا وہ یہ تھا کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا اس کی زندگی آپ سے آپ ایک مضبوط تنظیم کا جزو بن جاتی اور آپ ایسے

تمام افراد کو اجتماعیت کے رشتے میں اس طرح پروئے جاتے جس طرح تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں۔ حدیث ہے کہ مدنی دوزخ کے کسی برسوں تک اسلام لانے والوں کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آجائیں۔ گویا ذہنی اور عملی طور ہی پر ان کا ایک منظم گروہ بنتے جانا کافی نہ تھا، بلکہ حالات کے تحت اس وقت ظاہری اور جسمانی طور پر بھی ان کا ایک منظم گروہ بنتے جانا کافی نہ تھا، بلکہ حالات کے تحت اس وقت ظاہری اور جسمانی طور پر بھی ان کا ایک محاذ پر آکر جمع ہو جانا تعاضلے دین و ایمان تھا۔ یہ حکم آپ نے اس وقت تک واپس نہیں لیا جب تک کہ اسلام سیاسی طور پر پوری طرح مضبوط نہ ہو گیا، اور اس بات کا کوئی واقعی خطرہ باقی نہ رہ گیا کہ کفر و شرک کی طاقتیں اس کے قیام میں مانع ہو سکتی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد، جب حالات اس طرح کے ہو گئے، تب جا کر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب کسی شخص کو اپنے وطن سے منتقل ہو کر مدینہ آنے کی ضرورت نہیں رہی، جو جہاں ہو وہیں رہ کر نظام ملی کا جزو بننا ہے اور اپنے انفرادی فرائض کے ساتھ اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برآ ہوتا ہے۔ (لا ھجرت بعد الفتح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریق کار کو سامنے رکھ کر قیاس یہی کیا جاسکتا ہے کہ اگر آپ کو ملی افتراق و انتشار کی کسی حالت سے سابقہ پیش آیا ہوتا تو آپ کی سنت اس وقت بھی یہی ہوتی۔ یعنی آپ اس حالت انتشار کو حالت نظم و اتحاد سے بدل ڈالنے کی کسی ممکن اور موزوں کوشش سے کبھی نہ تھکتے۔ اس لیے آپ کے اس طریق کار کا اقتضار یہی ہو گا کہ طقت اسلام یہ جب بھی اختلاف و انتشار سے دوچار ہو، اس کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہوگی کہ اپنی اس حالت کو

انحاد و تنظیم کی حالت سے لازماً بدل ڈالے۔  
 "سنتِ رسول" کے بعد "سنتِ خلفائے راشدین" کی طرف آئے۔ چونکہ  
 دورِ خلافت کا معاملہ دورِ نبوت کے معاملے سے فطری طور پر مختلف تھا، اور اس  
 میں ملی اختلاف و انتشار کا پیدا ہو جانا عملاً ممکن تھا، چنانچہ ایک مدت تک وہ پیدا  
 ہوا بھی، اس لیے خلفائے راشدین کی "سنت" سے ہمیں اس مسئلے میں براہِ راست  
 رہنمائی مل سکتی ہے۔

سلسلہ خلافت کی سب سے پہلی کڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ  
 ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی ہیں، بلکہ آپ ہی کی  
 "سنت" ہمیں سب سے واضح رہنمائی بھی مہیا کر رہی ہے، اس لیے اسی کا  
 جائزہ لینا اس سلسلہ میں سب سے زیادہ مناسب اور مفید رہے گا۔ آنحضرت صلی اللہ  
 علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ امت کے سربراہ مقرر ہوئے تو عرب کے بعض  
 قبائل، جو حلقہ اسلام میں داخل چلے آ رہے تھے، ادا سے زکوٰۃ کے معاملے میں حکم عدلی  
 پر اتر آئے، اور انہوں نے حکومت کو مالِ زکوٰۃ حوالے کرنے سے صاف انکار کر  
 دیا۔ صورتِ حال اتنی نازک اور چھپیدہ ہو گئی تھی کہ فاروق اعظمؓ جیسا "آشَدُّ  
 حُوفًا آمْرِ اللّٰهِ" بھی کوئی سخت قدم اٹھانے کو صحیح نہیں سمجھ رہا تھا۔ مگر حضرت  
 صدیق اکبرؓ نے قبائل کے اس رویے کو برداشت کر لینے کے لیے دین میں کوئی  
 گنجائش نہیں پائی، اور پوری عزیمت و استقامت کے ساتھ صاف لفظوں  
 میں اعلان فرما دیا کہ: "خدا کی قسم اگر ان لوگوں نے اونٹ باندھنے کی کوئی ایک رسی بھی،

جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، میرے حوالے کرنے سے انکار کیا تو میں ان سے اس کے لیے جنگ کروں گا۔

(مسلم، جلد اول)

اس اعلان کے لفظ لفظ کو اچھی طرح غور سے دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبرؓ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے زکوٰۃ نکالنا بند کر دیا تو میں ان سے جنگ کروں گا، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی زکوٰۃ کی رقم میرے ذمینی اسلامی حکومت کے حوالہ کرنے سے انکار کیا تو میں ان سے اس کے لیے جنگ کروں گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے نزدیک بجائے خود یہ بات بھی جنگی اقدام کو مزوری قرار دے دیتی ہے کہ لوگ حکومت کے بیت المال میں اپنی زکوٰۃ داخل کرنے سے انکار کر دیں، چاہے اپنی جگہ زکوٰۃ کے نکالنے اور بطور خود اسے مستحقین پر تقسیم کر دینے میں وہ کسی کوتاہی کو روانہ رکھتے ہوں۔ ہر شخص محسوس کرے گا کہ یہ واضح طور پر اسلامی نظام اجتماعی کا مسئلہ تھا۔ زکوٰۃ روک لینے والوں کا طرز عمل اس نظام میں ایک رخنہ ڈال رہا تھا، اور حضرت ابو بکرؓ کا یہ اعلان جنگ اس نظام کو اسی رخنے سے محفوظ رکھنے کے لیے تھا۔ اس لیے آپ کے اس طرز عمل سے آپ کی سنت پر متعین ہوتی کہ ملی نظام اجتماعی میں پیدا ہونے والے کسی بھی خلی کو بزداشت نہیں کیا جاسکتا، اور ہر قیمت پر اس کی روک تھام یا اس کا ازالہ ضروری ہے۔

تہ ایک دوسری روایت میں اسی واقعہ کی یہ مزید تفصیل موجود ہے کہ حضرت عمرؓ نے آپ کو جب یہ مشورہ دیا کہ: "ابیر اللہ بن ابی اسد انہما..."

”اے خلیفہ رسول ان لوگوں سے ملے جڑے نظر آئیے اور نرمی

کارویہ اختیار کیجئے“

يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَأَلَّفِ النَّاسَ وَارْتَقِ بِسُحُورِ

تو آپ نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا اس کے الفاظ یہ تھے:

”عمر، زمانہ جاہلیت میں جہاں تم اتنے سخت تھے وہاں اب

اسلام میں اتنے بوسے بن رہے ہو! کوئی شک نہیں کہ وحی کا سلسلہ

موقوف، اور اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ کیا اب وہ میرے جیتے جی

ناقص ہو رہے گا؟“ (مشکوٰۃ باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہما)

حضرت ابو بکرؓ کے ان لفظوں سے زیر بحث مسئلے میں ایک اور پہلو

سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کے یہ الفاظ اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہیں کہ دین کے

مطالبات میں سے اگر کوئی ایک مطالبہ بھی پورا کرنے سے انکار کیا جا رہا ہو تو

آپ کے نزدیک یہ دراصل دین کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل کیا جا چکا ہے

ناقص ہو کر رہ جاتا ہے، اور مومن و مسلم ہونے کی شان یہ ہرگز نہیں ہے کہ ممبر و

سکون سے اس صورت حال کو برداشت کر لیا جائے۔ حکم ضروری ہے کہ اس دینی

مطالبے پر عمل کرنے، عمل کرانے اور دین کامل کو ناقص ہو رہنے کے خطرے سے

محفوظ کر لینے کو وقت کا ایک اہم ترین فریضہ بنا لیا جائے۔ گویا دین کو ناقص بنانے

جاتے وقت یا اس کے ناقص بنا دیتے جانے کی شکل میں خلیفہ رسولؐ کی ”سنت“

یہ ہوتی کہ اسے اس کی اصل حالت کمال پر باقی رکھنے یا اس کی طرف واپس لانے



جانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتے۔ اب سوچیے، شیرازہ ملت کا بکھر جانا اور "دَاعَتْصِنُوا  
 بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" جیسے بنیادی مطالبہ دین کا فراموش ہو کر رہ  
 جانا دین کے ناقص ہونے کی بات ہوگی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا ایک  
 ہی جواب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر چند قبائل کا حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے  
 سے انکار کرنا دین کے ناقص ہونے کے ہم معنی ہے، تو پوری امت کس سے  
 لے لے امام و لے نظام بن جانا، اور لے شمار احکام شریعت کا معطل ہو رہنا  
 یقیناً دین کے ناقص ہی نہیں بلکہ ناقص تر اور ایسا بیجا بن جانے کے ہم معنی ہو گا۔ اگر  
 حقیقت یہ ہے تو اس کی موجودگی میں اہنباش کی سنت، کی پیروی صرف  
 یہی ہو سکتی ہے کہ ملت کو پھر سے شیرازہ بند کیا جائے، اور اس کی کھوئی ہوئی  
 منظم زندگی اسے واپس دلا دی جائے۔

ایک دوسرا ارشاد نبوی ملاحظہ ہو:

إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَعْمُرُ غَرِيبًا

فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصَلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ

مِن بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي۔ (ترمذی جلد دوم، صفحہ ۹۲)

دین کا آغاز غربت کے عالم میں ہوا تھا، اور ایک وقت

چل کر وہ پھر اسی عالم میں ٹوٹ جائے گا۔ تو مبارک کی ہوا ان غربا،

کے لیے جو اس وقت میری سنت میں کی ان چیزوں کو پھر سے

درست کریں گے جنہیں لوگوں نے بگاڑ رکھا ہو گا۔

اس حدیث میں امت کی آئندہ بگڑی ہوئی حالت کی خبر دیتے ہوئے جن

لوگوں کو خوش بخت اور قابلِ مبارکباد فرمایا گیا ہے، غور کیجیے وہ کون اور کن صفات کے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے ان اجزاء کو پھر سے ٹھیک ٹھاک کریں گے جنہیں غافلوں اور بد عملوں کے ہاتھوں نے بگاڑ رکھا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں آئندہ کی ایک خبر دینے سے زیادہ دراصل ایک وصیت فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جب بھی آپ کی سنت کی کسی جزو پر آئیں، صاحبِ احساس مسلمان اس کی حفاظت یا بحالی کے لیے کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے اور اللہ کا بندہ بن کر رہنے کا جو طریقہ آپ چھوڑ گئے ہیں اس کے کسی ایک حصے کو بھی بے پروائی کے ساتھ حوادثِ زمانہ کی نذر ہو جانے دینا ایمان کی موت ہے، چاہے قانون (فقہ) کی نگاہ میں اس کی اہمیت چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ جہاں تک اللہ کی بندگی اور رسول کی پیروی کا تعلق ہے، آپ کی ہر سنت، سنت ہے، اور آپ کا قائم کیا ہوا کوئی ایک نقشِ قدم بھی نہیں جسے مومن کی نگاہ مٹایا مٹتا ہوا دیکھ سکے۔

یہاں پھر اسی سوال کو سامنے لائیے، اور سوچیے کہ کیا ملت کے بند بند

کا اکٹرا جانا اور اس طرح شریعت کے بے شمار احکام کا معاملاتِ زندگی سے بے تعلق ہو کر رہ جانا دین کا کوئی معمولی عسارہ اور سنت و طریق رسول کا کوئی چھوٹا موٹا بگاڑ ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ بگاڑ تو اتنا بڑا اور اتنا ہلکا ہے کہ اس سے زیادہ بڑے اور ہلکے بگاڑ کا دین و سنت رسول کے بارے میں تصور ہی مشکل ہے۔ پھر نیک بڑے اور ہلکے بگاڑ کے سلسلے میں، وصیتِ نبوی کا حق کس طرح ادا

کیا جاسکتا ہے؟ یعنی ان لوگوں کے کرنے کا کام کیا ہوگا جو صحیح معنوں میں اسلام کے پیرو ہوں، اور جن کو عنبر باد کا خطاب مل سکتا ہو؟ بلاشبہ اس سوال کا بھی ایک ہی جواب ہوگا اور وہ یہ کہ طقت کے بکھرنے ہونے شیرازے کو پھر سے درست کرنے، اور اس کے مطلوبہ نظم اجتماعی کو از سر نو قائم کر ڈالنے کی فکر ہر فکر پر غالب ہو جاتے، اور اس کی خاطر ہر وہ جدوجہد کی جائے جو کی جاسکتی ہو۔

قرآن اور سنت کے بعد اگر ہم فقہی اور کلامی اصولوں سے بھی دیکھنا چاہیں تو اس بارے میں، جیسا کہ ہونا چاہیے، اس سے مختلف کوئی چیز نہ پائیں گے۔ چنانچہ گزشتہ ابواب میں "نظم مملکت کی دینی ضرورت" کے زیر عنوان آئمہ اسلام کی یہ تصریحات آپ کے سامنے آئی ہیں کہ قیام خلافت کے واجب ہونے پر اُمت کا اجماع ہے، اور اس قیام خلافت کی ضرورت علامہ تفتازانی کے لفظوں میں اس لیے ہے کہ بہت سے واجبات شرعیہ کی بجا آوری اسی چیز پر موقوف ہے۔ "لَا تَقُومُ كَثِيرًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ بِتَوْقِفِ عَلَيْهِ" یہ دونوں حقیقتیں اگر ناقابل انکار ہی ہوں گی کہ یہ دونوں ایک تیسری حقیقت کا وجود ضروری ٹھیراتی ہیں، اور وہ یہ کہ اگر اُمت میں اجتماعیت اور تنظیم باقی نہ رہ گئی ہو تو اس کا فرض ہوگا کہ اسے پھر سے اپنے اندر قائم کرے۔

کیونکہ یہی اجتماعیت اور تنظیم وہ چیز ہے جس پر خلافت و امامت کا قیام موقوف ہے۔ اگر دیواروں کے بغیر چھت نہیں بنائی جاسکتی تو تنظیم اجتماعی کے بغیر نظم خلافت بھی قائم نہیں کیا جاسکتا۔ مانا ہوا اصول ہے کہ وہ کام بھی فرض بن جاتا ہے جس پر کسی فرض کا ادا ہونا موقوف ہو۔ بہت سے دینی احکام کی بجا آوری ایک

امام کے تقرر پر موقوف ہے، اور امام کا تقرر امت کے شیرازہ بند ہونے پر منحصر ہے۔ اس لیے پہلی بات کا ضروری ہونا دوسری کے ضروری ہونے کی دلیل بن گیا، اور جب دوسری ضروری ہو گئی تو اس سے تیسری کا بھی ضروری ہونا آپ سے آپ لازم آگیا۔

### نظم اجتماعی کی بحالی کا طریقہ

یہاں پہنچ کر ہمارے سامنے قدرتی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کام کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ یہ امت، جو ایک بیڑ کی شکل اختیار کر چکی ہے، پھر اجتماعت، کس طرح بن سکتی ہے؟ اور اسے اس کی کھوئی ہوئی منظم اجتماعیت واپس کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سوال بچائے خود تو کافی اہم تھا ہی، مگر موجودہ صورت حال نے اسے اور زیادہ اہم اور ساتھ ہی سخت پیسیدہ بنا دیا ہے۔ کیونکہ یہ سوال اگرچہ ایسا فطری اور عملی سوال تھا جو موجودہ جو جھڑکنے والوں کے ذہن میں برابر موجود چلا آ رہا ہے اور اس لیے اس کا جواب بھی برابر سوچا جاتا رہا ہے، لیکن اس سوچ بچار کے سلسلے میں اب تک عام طور پر جو کچھ سنا اور دیکھا گیا ہے وہ سخت نا تسلی بخش ہی نہیں بلکہ بچاتے خود اختلاف و انتشار کی ایک ایسوس ناک مثال ہے۔ جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ بہت کچھ الجھ بھی گیا ہے اس لیے اس پر ہمیں پوری توجہ سے غور کرنا ہوگا۔

اس غور و فکر کی ابتدا کرتے وقت تین بنیادی اور مسلم حقیقتیں ہمارے ذہنوں میں بالکل واضح رہنی چاہئیں: ۱۔ اسلام کے بنیادی اصولوں کی بحالی کے لیے ایک تو یہ کہ امت مسلمہ کو ضرورت، جیسا کہ اسلامی اجتماعیت کی

بحث میں تفصیل سے بتایا جا چکا، کسی مجسّم اور بے قید اجتماعیت کی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک مخصوص قسم کی اجتماعیت اور وحدت مطلوب ہے، جس کا شیرازہ صرف 'اللہ کی رسی' ہو اور جس کے وجود کا مقصد شہادتِ حق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اقامتِ دین کے سوا اور کچھ نہ ہو۔

دوسری یہ کہ جس طرح منظم اجتماعیت کی بحالی ایک دینی ضرورت ہے، اسی طرح اس بحالی کا طریقہ بھی دینی ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اس طریقے کا تعین صرف کتابِ الہی اور سنتِ رسول کریں گی، نہ کہ زید و بکر کے فلسفے اور نظریے، یا غیر اسلامی تحریکوں کے تجربے اور سنتیں،۔

تیسری یہ کہ ہم جس طرح اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی راست اور صریح ہدایت نہیں پاسکے کہ ملی انتشار کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی طرح اس بارے میں بھی نہیں پاسکتے کہ جو کچھ کرنا ہے اسے کس طرح کرنا چاہیے؟ اور یہاں بھی وہب ٹھیک وہی ہے جو وہاں تھی۔ یعنی یہ کہ اس وقت اُمت کی جس حالتِ اختلاف کو سامنے رکھ کر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس حالت سے بہت مختلف ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنا پڑا تھا۔ ہمارے سامنے ایک ایسی مسلمان ملت کی اصلاح و تنظیم تو مسئلہ ہے جو پہلے سے موجود چلی آ رہی ہے جبکہ رسول اللہ کے سامنے مسئلہ ایک نئی اُمت کی تشکیل کا تھا۔ ایسے منظم اجتماعی کی بحالی کا کام کرنے کے لیے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوے اور طریق کار میں کوئی ہدایت مل سکتی ہے تو وہ آپ کے اُسوے سے اخذ کی ہوئی ہدایت ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بات یہیں تک نہیں رہتی بلکہ اس کے تقابض اور آگے

تک پہنچتے ہیں۔ دونوں حالتوں کے اُس فرق کی وجہ سے، جس کا ذکر ابھی ہوا، اگر زیر بحث حالت کے لیے مریخ اور راست رہنمائی اسوۂ نبوی سے نہیں مل سکتی تو خود قرآن مجید سے بھی نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ قرآن حکیم کی وہ مخصوص نوعیت ہے جو اُسے خالص علمی کتابوں سے میز کرتی ہے۔ علمی کتابوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موضوع سے تعلق رکھنے والی تمام ممکن باتوں اور حالتوں کو ایک ایک کر کے لیتی ہیں، اور ان کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتی چلی جاتی ہیں۔ ان کو اس بات سے بہت کم بحث ہوتی ہے کہ اس وقت ان کے مخاطب کے عملی مسائل حیات کیا ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو ان کا کوئی متعین مخاطب بھی نہیں ہوتا، اور وہ بالکل تصورات کی دنیا میں اپنے فلسفے بگھار رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب انسانیت کا ہاتھ پکڑا کر اسے فلاح کی منزل تک پہنچانے کے لیے آتی تھی۔ اس کا ایک متعین مخاطب تھا، اور ایک متعین مشن۔ وہ جو کچھ کہتی ضرورت وقت کے تقاضے ہی پر کہتی۔ اس لیے اس نے اُمرتِ مسلمہ کو نظم و اجتماعیت کے ہتھیاروں سے مسلح کرنے کے سلسلے میں ہدایتیں دیتے وقت اگر ایک نئی اُمت کی تشکیل ہی کے مسئلے کو سامنے رکھا، اور پہلے سے موجود کسی پراگندہ مسلمان ملت کو ذہن میں رکھ کر صراحت کوئی بات نہیں فرمائی، تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا۔

ان تینوں واضح اور مسلم حقیقتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر نظر ڈالیے، اور یہ دیکھیے کہ ان کی رو سے ملت کی نئی تنظیم کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟

قرآن مجید نے اُمتِ مسلمہ کی تشکیل کے وقت اسے متحد و منظم کرنے کے بارے میں جو بنیادی ہدایتیں دی تھیں، ان کا تعارف پچھلے اوراق میں، "اسلامی اجتماعیت" کے زیر عنوان، پوری تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایتوں کی تکمیل کس طرح کی تھی۔ یہاں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس اہم سوال پر غور کیجیے کہ ملت کی تنظیم جدید کے مسئلے میں ان قرآنی ہدایتوں کی اور اس نبوی طریق عمل کی اصولاً کیا حیثیت ہوگی؟ آیا ان ہدایتوں کا اطلاق اس معاملے پر بھی ہو گا یا نہیں؟ اور اگر ہو گا تو کس حد تک؟

اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی ان ہدایتوں کے الفاظ اور انداز بیان کا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریق عمل کی داخلی نوعیت کا پیر سے جائزہ لینا ہوگا، اور گہری نظر ڈال کر دیکھنا ہوگا کہ ایک خاص صورت حال سے متعلق ہونے کے باوجود ان کے اندر عموم کی شان پائی جاتی ہے یا نہیں؟ یعنی ان کی حیثیت بنیادی طور پر عام اور اصولی ہدایات کی ہے یا حقیقتِ واقعی اس کے برعکس ہے؟ یہ جائزہ ہمیں اس کا جواب واضح طور پر اثبات میں دے گا۔ کیونکہ متعلقہ آیتوں میں ہم اس طرح کا کوئی اشارہ بھی نہیں پاتے جس سے یہ محسوس کیا جاسکے کہ قرآن کی یہ ہدایتیں بنیادی طور پر صرف نبی کے ذریعہ بننے والی ایک نئی اُمت کی تشکیل و تنظیم ہی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگر اس کے بجائے پہلے سے موجود مسلمان ملت کی اصلاح، تعمیر اور تنظیم کا مسئلہ سامنے ہو تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے۔ اس کے بخلاف ہم

صاف دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں کی کوئی بات بھی ایسی نہیں جو مسلم اصولی ہدایت کی شان نہ رکھتی ہو۔ جتنے کہ ان میں خطاب کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ بھی بالکل عمومی ہے۔ یعنی بات یوں نہیں فرمائی گئی ہے کہ:

اے نبی، امت مسلمہ کی تشکیل و تنظیم ان بنیادوں پر کرو، یا اے اصحابِ نبی، تمہیں ان خطوط پر اپنے کو سنوارنا اور منظم کرنا چاہیے، بلکہ یوں فرمائی گئی ہے کہ:

”اے اہل ایمان! اللہ کا ٹھیک ٹھیک تقویٰ اختیار کرو

اور تم سب کے سب اللہ کی رستی کو مضبوطی سے

پکڑ لو۔“

کیا یہ اس حقیقت کا واضح ثبوت نہیں کہ ”اہل ایمان“ کو اپنی تنظیم کا فریضہ

ہمیشہ انہی خطوط پر انجام دینا چاہیے چاہے وہ اس وقت کے ”اہل ایمان“ ہوں

جب کہ امت کی تشکیل ہو رہی تھی۔ چاہے بعد کے کسی دور کے ”اہل ایمان“

ہوں جب کہ ملت کے منتشر ہو جانے کے باعث اس کی تنظیم جدید کی ضرورت

درپیش ہوگی۔

عقل پہلو سے دیکھا جائے تو اس کے نتیجے میں بھی کوئی دوسری بات نہ پائی

جائے گی۔ کیونکہ معاملہ چاہے تشکیلِ امت کے وقت کی تنظیم کا ہو چاہے بعد

کی تنظیم کا، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔

جب مقصد ایک ہے، تو صرف اپنی سنی بات سے کہ ایک کے ارکان باہر



سے چھانٹ چھانٹ کر اکٹھے کیے جاتے ہیں اور دوسری کے 'اندر' ہی سے  
 بلائے جاتے ہیں، کام کے طریقوں میں کون سا بنیادی فرق پڑ سکتا ہے؟  
 ہاں، جہاں تک افراد کے اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی حقوق کا تعلق ہے  
 اس 'اندر' اور 'باہر' کی بنا پر فرق ضرور واقع ہو جائے گا، اور ایک غیر مسلم کے  
 مقابلے میں ایک بے عمل مسلمان کے حقوق بھی بہر حال کہیں زیادہ ہوں گے،  
 خواہ اس دعوتِ تنظیم کے جواب میں اس کا رویہ معاندانہ ہی کیوں نہ  
 ہو۔ بس یہی ایک فرق ہے جو دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ بلاشبہ  
 یہ فرق اپنی جگہ بڑا عظیم فرق ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ تنظیم  
 ملت کے بنیادی اصولوں پر وہ کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا۔ اثر انداز ہونا  
 تو الگ رہا، اس فرق کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں دکھائی پڑتا۔  
 غرض جس پہلو سے بھی دیکھیے، ملت کی تنظیم جدید کا طریقہ بھی بنیادی  
 طور پر وہی ہوگا جو امت مسلمہ کی تشکیل کے متعلق قرآن حکیم اور اسوۂ رسول میں  
 پایا جاتا ہے، اور وہ ان نکات پر مشتمل ہوگا،

(۱) کام کی ابتداء رجوع الی الحق، کی دعوتِ عام سے کی جائے۔ پوری  
 قوت سے ملت کی خود شناسی کو ابھارا جائے اسے یاد دلایا جائے کہ  
 وہ اس زمین کی سطح پر کس کام کے لیے موجود ہے، اور جس دین سے اپنی  
 وابستگی کا دعویٰ رکھتی ہے وہ اس کے افراد کو کن صفات سے آراستہ، اور  
 اسے اجتماعی طور پر کس مقصدس ہم میں مشغول دیکھنا چاہتا ہے۔ اس  
 تغیر عام، کے جواب میں اس کے جو افراد شعور کے ساتھ لبیک کہہ کر آگے

برخصیں، انہیں بتایا جائے کہ تمہارے آقا و مولیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اور اس کی رضا کے سوا تمہارے سامنے اور کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس پر تمہاری نگاہیں ٹک سکیں۔

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَسُونُوا إِلَّا

وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ (آل عمران، ۱۰۲)

(۲) جو لوگ رجوع الی الحق کی اس دعوت کو فکری طور پر اطمینان قلب کے ساتھ قبول کر لیں، اور عملی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائیں، انہیں بتایا جائے کہ اپنے جس بھولے ہوئے مقصد کو تم پھر سے اپنا رہے ہو وہ ایک عظیم مقصد اور ایک دشوار مہم ہے۔ تم اسے سر کرنے کے قابل اس وقت تک ہرگز نہیں بن سکتے جب تک کہ تم سب ایک تنظیم، ایک وحدت، اور ایک بنیاد مخصوص نہ بن جاؤ۔ اس کے علاوہ تمہارے مومن و مسلم ہونے کا فطری تقاضا بھی یہی ہے۔ اس لیے تمہارا الگ الگ متعلق، اور 'مسلم' بن جانا ہی کافی نہ ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ تم سب مل کر ایک ایسی منظم جماعت بن جاؤ جو اپنے اجتماعی وجود میں بجائے خود بھی ایک 'مومن، متعلق اور مسلم' وجود ہو۔ اس طرح جو لوگ ایک منظم جماعت کی شکل اختیار کر لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور

اگر وہ اپنے رجوع الی الحق کے فیصلے میں مخلص ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے لیے تیار نہ ہوں۔ انہیں اس تنظیم کا جزو ترکیبی بنانے والی چیز 'جہل اللہ' (یعنی اللہ کے دین) اور 'دخول فی السلم' (یعنی کامل اطاعت) کے سوا اور کچھ نہ ہونا چاہیے۔ کسی ایسے شخص کو اس تنظیم میں ہرگز نہ لیا جائے جسے

کوئی اور شتہ لاکر جوڑ رہا ہو، جس کا حقیقی محرک اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے سوا اور کچھ ہو، اور جس کے نامنے صرف امر بالمعروف، شہادت حق، اور اقامت دین ہی کا فریضہ انجام دینا نہ ہو۔

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔

آیہ عمران، ۱۰۳

(۳) قائم ہونے والی تنظیم کے دو حقیقی فرائض ہوں گے، جن سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتی، اور جن پر اس کی کوششیں برابر مرکوز رہیں گی، ایک تو یہ کہ دوسرے افراد ملت کو رجوع الی الحق، کی دعوت دے۔ دوسرے یہ کہ افراد تنظیم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام رکھے۔ ان دونوں باتوں کی ضرورت اور اہمیت بالکل واضح ہے۔ پہلی کامنشا یہ ہے کہ تنظیم کا اگلا برابر بڑھتا رہے، یہاں تک کہ وہ تناور درخت بن جائے، اور امت کے بکھرے ہوئے اجزاء ایک ایک کر کے اس کے نیچے آجائیں۔ دوسری کی غرض و غایت یہ ہے کہ تنظیم کی اندرونی توانائی برابر قائم رہے، نہ صرف قائم رہے بلکہ بڑھتی رہے۔ اس کے افراد میں ایمان، تقویٰ اور اسلام کی روح مرجھانے نہ پائے، بلکہ پیہم حیات تازہ پاتی رہے۔ ان کے اندر تنظیم سے وابستگی کا حقیقی محرک نہ کبھی کمزور پڑنے پائے، نہ کسی اور محرک سے متاثر ہونے پائے۔

تنظیم نو کی عملی شکل

تنظیم ملت کا طریقہ متعین ہو جانے کے بعد یہ بحث اصولاً تو ختم ہو جاتی ہے، مگر عملاً ختم نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایک مسئلہ اب بھی حل طلب رہ جاتا ہے۔ اور

وہ یہ کہ اس تنظیم کو عملی شکل کیا ہوگی؟ یہ کام کس طرح انجام پائے گا؟ ایک نبی کی موجودگی ہیں تو یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ لیکن جب صرف امت ہی امت ہو تو یہ ایک اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔ البتہ جہاں تک طریق تنظیم کے پہلے اصولی نکتے کا تعلق ہے، اس کی حد تک تو عمل درآمد کا معاملہ بالکل صاف ہے۔ کیونکہ یہ بات ہر وقت متوقع ہے کہ فضا میں فرض کا احساس ابھرائے، اور کوئی شخص یا کچھ اشخاص رجوع الی الحق، کی منادی کرنے اٹھ کھڑے ہوں، اور توقع کی بھی کیا بات ہے؟ ایسا تو کسی نہ کسی شکل میں آتے دن ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن پھر بعد میں کیا ہو؟ کار تنظیم کے باقی دونوں اصولی نکتوں پر عمل کیسے ہو؟ آگے قدم کس طرح بڑھے؟ اس ابھرے ہوئے احساس فرض کو اور رجوع الی الحق کی اس ابتدائی منادی کو مطلوب تنظیم کی آخری منزل تک پہنچا دینے کا پروگرام کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ صاف اور بالکل واضح نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنا حل چاہتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ اس کا صحیح حل کیا ہوگا؟

ظاہر ہے کہ اس حل کو تلاش کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی اور چیز سے نہیں، بلکہ کتاب و سنت ہی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ رہنمائی ہمیں جن آیتوں اور حدیثوں سے مل سکے گی ان میں سے کئی ایک کتاب کے ابتدائی مباحث میں نقل بھی کی جا چکی ہیں۔ ایک بار ان پر پھر نظر ڈال لیجیے۔ اس کے بعد سوچیے، جو دین ہر کام کو حتیٰ الوسع باہم مل کر، اور ایک امام یا امیر کی قیادت میں انجام دینا ضروری، یا کم از کم یہ کہ پسندیدہ قرار دیتا ہو، جو نماز جیسی بظاہر مکمل علیحدگی اور تنہائی چاہنے والی عبادت کے لیے جماعت کا مثالی اہتمام اور ایک امام کی

معیاری اقتدار واجب قرار دیتا ہو، جو زکوٰۃ، حج اور روزے کی عبادتوں کو بھی ممکن حد تک اجتماعی شکل ہی میں ادا کرنے کا حکم دیتا ہو، جو اس بات تک کو جائز نہ سمجھتا ہو کہ جنگل میں سفر کرنے والے تین آدمی بھی اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر نہ بناتے ہوتے ہوں۔۔۔۔۔ کیا ایسا دین اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ تنظیم ملت جیسی عظیم الشان ہم کسی نظم و قیادت کے بغیر انجام دی جاسے؟ اور کیا تنظیم کا یہ طریقہ اس کی ان ہدایتوں سے ہم آہنگ اور اس کے مزاج کے مطابق ہوگا؟ عقل سلیم اس سوال کا جواب یقیناً نفی ہی میں دے گی۔ بلاشبہ مکی دور میں ہم جماعت، اور امیر، انظم، اور اطاعت، کے الفاظ بولے جاتے نہیں سنتے۔ مگر یہ نگاہ کا دھوکا ہوگا اگر ہم اس سے یہ خیال کر لیں کہ وہاں ان الفاظ کے معانی بھی موجود نہ تھے۔ جس ذات گرامی پر اس کے فداکار ساتھی اپنی جانیں چھڑکتے تھے، جو اس آسمان کے نیچے ان کی سب سے محبوب متاع تھی، جس کے اشارے بھی ان کے لیے بڑے سے بڑے اُمرؤں اور شہنشاہوں کے فرامین سے بڑھ کر واجب التعمیل اور قابل احترام تھے، وہ کب اس بات کی ضرورت مند تھی کہ ان کے سامنے اپنی قیادت اور امارت کا قانونی لفظوں میں اعلان کرے، اور ان سے اپنی اطاعت کے عہد نامے لکھوائے! چنانچہ اس پورے دور میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پایا جاسکتا جو اس بات کا ثبوت ہو کہ وہاں معنی بھی نظم، اجتماع اور نظام اطاعت موجود نہ تھا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اہل ایمان کی شان میں "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" کے الفاظ مکہ ہی میں نازل ہوئے تھے۔ کیا یہ الفاظ ان لوگوں کے حق میں فرمائے جاسکتے تھے جن میں نہ کوئی اجتماعیت ہو نہ کوئی نظم؟ کوئی شک

نہیں کہ تاریخی حقائق کی طرح یہ الفاظ قرآنی بھی اس امر کا ثبوت ہیں کہ مکی دور میں نظم و اطاعت کے الفاظ چاہے استعمال نہ کیے گئے ہوں، لیکن وہاں ایک مضبوط نظم ضرور موجود تھا، ایک جاندار اجتماعیت یقیناً کار فرما تھی، دعوت اور امت کے اہم معاملات میں سر جوڑ کر بہر حال بیٹھا جانا تھا، غور و بحث کے بعد فیصلے ہوتے تھے، اور ان فیصلوں کے مطابق ہی پورا گروہ مومنین عمل پیرا ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کے بغیر کوئی بات انجام نہ پائی تھی۔

بہتر ہو گا کہ اس جگہ ایک اصولی حقیقت سمجھ لی جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک دعوت حق قبول کرنے والے افراد اُس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ مکی دور کے اہل ایمان تھے، اور ان کا داعی و راہنما اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے جس طرح کی شخصیت ان کے درمیان وہاں موجود تھی، اُس وقت تک جماعت، اور امارت، نظم، اور اطاعت کے الفاظ بولے جاتے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت ان الفاظ کا بولا جانا اس شخصیت کے مقام عظمت و محبوبیت پر بھی حرف لانا ہے، اور اس کے مخلص پیروؤں کے جذبہ محبت و تعظیم کی بھی اک گونہ توجہیں تھیں۔ یہ الفاظ تو صرف اسی وقت بولے جاسکتے ہیں جب یہ دونوں باتیں، یا ان میں سے کوئی ایک موجود نہ پائی جاتی ہو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نکتے میں جہاں "اِحْتَصِبُوا بِاللّٰهِ" کی تلقین کافی تھی، وہاں مدینے میں "بِحَبْلِ اللّٰهِ" کی صراحت ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ "وَلَا تَفَرَّقُوا" کی کھلی ہدایت بھی ضروری ہو گئی۔

۱۔ "اِحْتَصِبُوا بِاللّٰهِ" کے الفاظ سورہ حج کے ہیں جو مکی سورہ رہبانق صفحہ ۱۸۱ پر

اسی طرح مکی دور میں نظم و اطاعت کا ظاہر لفظوں میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ مگر مدنی دور شروع ہوتے ہی ”أَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کے الفاظ استعمال کیے جانے لگے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ مدینے میں پہلی بات موجود نہ رہ گئی تھی یعنی اس وقت کے ’اہل ایمان‘ بلا استثناء سب کے سب ویسے ہی مخلص، فداکار اور سزا پا اطاعت نہیں رہ گئے تھے جیسے کہ مکی دور کے تھے۔ بلکہ ان میں ایک خاصی تعداد کچھ مسلمانوں کی اور منافقوں کی بھی اگھسی تھی، جن کا ایمانی ضعف یا تفاق انہیں دینی مطالبوں کی خلاف ورزیاں کر جانے پر اکسا دیا کرتا تھا۔ اس لیے اب ناگزیر ہو گیا کہ وہ مومنین کو ایک متحد گروہ بنے رہنے کا، اور اللہ و رسول اور اولوالامر کی اطاعت کا صریح لفظوں میں بھی حکم دیا جائے۔

یہ تو اس صورت حال کی مثال تھی جب کہ داعی اور رہنما کی شخصیت معیاری اور مثالی قسم کی ہو، مگر اس کے پسرو تمام کے تمام معیاری اور مثالی قسم کے نہ ہوں۔ رہی اس کی اُلٹی صورت حال کی بات، تو اس کی مثالوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ یہاں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ جب بھی کچھ مسلمان کسی ضرورت کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قیادت سے کچھ دنوں کے لیے الگ ہوتے تو ایک امیر کے بغیر اپنے قدم نہ اٹھاتے۔ مدنی دور میں آئے دن وفود بھیجے جاتے اور ہمیں روانہ کی جاتی تھیں، مگر کوئی وفد یا کوئی

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۸۰ سے ہے، اور ”إِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ کا ارشاد الہی سورۃ آل عمران کا لکڑا ہے جو مدنی سورہ ہے۔

دستہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کا ایک امیر نہ ہو۔ مکی دور میں اگرچہ اس طرح کی صورتیں پیش آنے کے حالات و مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اگر کبھی ایسی صورت پیش آتی تو اس وقت بھی کوئی دوسرا طریق کار اختیار نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ہجرتِ حبشہ کے موقع پر جب کچھ مسلمان آپ کی صحبت سے الگ ہو رہے تھے تو ایسا نہیں ہوا کہ ہر شخص نے اپنے طور پر اپنی راہ لی ہو، بلکہ سب نے ایک جماعت بن کر اور ایک قیادت کے تحت ہجرت کی تھی۔ سب سے پہلا قافلہ مہاجرین دس آدمیوں پر مشتمل تھا، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس قافلے کا سربراہ مقرر فرمایا تھا۔ (سیرت ابن ہشام جلد اول)

غرض مکی دور کی ظاہری صورت حال کو دیکھ کر یہ گمان کر بیٹھنا صحیح نہ ہوگا کہ وہاں فی الواقع بھی کوئی اجتماعی نظم کارفرمانہ تھا۔ اس بحث سے ملت کے طریق تنظیم کے بارے میں دین کا تقاضا اور شریعت کا نقطہ نظر پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور کتاب و سنت کی عام اجتماعی ہدایتیں یہی تلقین کرتی ہیں کہ ملت کی اصلاح و تنظیم جدید کا فریضہ اجتماعی طور پر ایک نظم اور ایک قیادت کے تحت انجام پانا چاہیے۔

شرعی نقطہ نگاہ کے بعد اگر عقلی اور تجرباتی پہلوؤں سے دیکھیے تو یہی بات یہی نکلے گی۔ تاریخ کے وسیع ذخیرے میں اس بات کی کوئی ایک مثال ہی نہیں پائی جاسکتی کہ دنیا کا کوئی اجتماعی انقلاب کسی اجتماعی اور منظم سعی و جہد کے



بغیر برپا ہوا ہو۔ اس دنیا میں کام کرنے والے قوانین کہتے ہیں کہ ایسا نہ کہی ہو  
ہے اور نہ کہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک مضبوط اجتماعی نظم کے بغیر اگر تنظیم  
ملت کی ہم چلائی جائے گی تو وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اس سلسلہ میں انفرادی  
اصلاح و ترتیب کی جو کوششیں انجام دی جائیں گی ان کا حاصل صرف یہ ہوگا کہ  
مسلمانوں کے اس جنگل میں کچھ مخلص دیندار اور ملی نظام اجتماعی کی بجالی کے خواہشمند  
افراد پیدا ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد کی تعداد "کچھ" کے بجائے "بہت"  
ہو۔ مگر جب تک اس متفقہ اجتماعی نصب العین کو پالینے کا جذبہ ان سب  
کو ایک ہی شیرازے میں مضبوطی سے باندھے ہوتے بھی نہ ہو اور اس غرض کے  
لیے اجتماعی نظام اور قیادت موجود نہ ہو۔ ملت اس اجتماعیت سے قیامت  
تک بہرہ ور نہیں ہو سکتی جو اللہ کے دین کو مطلوب ہے، اور جس کے بغیر،  
بقول سیدنا عمرؓ، اسلام، اسلام نہیں رہتا۔ ایسے مخلص دیندار اور ملی تنظیم  
کے خواہش مند افراد کے وجود کو، جو بجائے خود اپنی کوئی تنظیم اور قیادت  
نہ رکھتے ہوں، ملت کی تنظیم نو کی ضمانت سمجھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے پکی  
ایتھوں کو تلے اوپر رکھ کر یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی جنگی قلعے کی دیوار تیار ہو گئی  
ہے۔ یقیناً یہ بڑی ہی عجیب بات ہوگی کہ مسلمانوں کے اور سارے کام تو  
منضبط طور پر، ایک نظم اور ایک قیادت کے تحت انجام پائیں، ان کا  
دین ان سے یہی چاہتا ہو، مگر ٹھیک وہی ہم اس طرح کے نظم و انضباط  
سے بے بہرہ ہو جو ملت کو ایک مضبوط اجتماعیت اور نظم سے بہرہ ور  
کرنے ہی کے لیے جاری کی گئی ہو! کیا ایسی صورت میں یہ ہم اپنی مخالفت

خود آپ ہی نہ ہوگی؟ اور کیا اسی کے ناکام ہونے کا یقین دلانے کے لیے خود  
یہی بات کافی نہ ہوگی کہ نظم و اجتماعیت کی اس متلاشی جدوجہد میں سب کچھ  
ہے مگر ایک نظم و اجتماعیت ہی نہیں ہے؟۔  
غرض جس پہلو سے بھی دیکھیے، ملی تنظیم کے باقی دونوں اصولی نکات کو  
بروتے کارلانے کی شکل عملاً ہی قرار پائے گی کہ جو لوگ اس مقصد سے شعوری  
طور پر وابستہ ہو جائیں وہ ایک جماعتی نظم قائم کر لیں، اور اپنے میں سے ایک  
ایسے فرد کو اس نظم کا سربراہ منتخب کر لیں جو اس مقصد کی سب سے زیادہ اچھی  
خدمت انجام دے سکتا ہو۔ پھر ان کا ایک مؤثر شورائی نظام ہو جو "آمٹروہو  
شورای بیئہو" کے تقاضوں کا حق ادا کرتا ہو، اور اس طرح پورے نظم و ضبط  
کے ساتھ یہ بھاری اور لمبی مہم مسلسل چلتی رہے۔

یہ حقیقت کسی اظہار و بیان کی محتاج نہیں کہ یہ جماعت بجائے خود الجماعۃ  
نہ ہوگی۔ نہ یہ تنظیم، ملی تنظیم کا بدل ہوگی، بلکہ اسے وجود میں لانے کے لیے ہوگی۔  
"سنت رسول، اور سنت خلفائے راشدین، کے ہاتھوں میں اس کی زمام کار  
رہے گی۔ اپنی غربت اور اجنبیت سے وہ پہچانی جائے گی۔ دین حق اور طریق  
رسول کے جس گوشے کو بھی اُجاڑا یا بگاڑا جا چکا ہے اس کی تعمیر و اصلاح میں وہ  
کسی ممکن سعی سے دریغ نہ کرے گی۔

الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ

# گوشہ گیری

## گوشہ گیری کی مشرور عینیت

ایک طرف تو ایمان و اسلام کے لیے منظم اجتماعی زندگی کا وجود اس حد تک ناگزیر ہے جس کی وضاحت پچھلے صفحات پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف قرآن حکیم کے بعض اشارات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کھلے ہوئے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعیت سے یکسر نا آشنا اور گوشہ تنہائی کی زندگی بھی غیر اسلامی زندگی نہیں، بلکہ ٹھیک اسلامی زندگی ہے، اور اسے اللہ و رسول کی رضا حاصل ہے۔ مثلاً:

سورہ کہف کے دوسرے رکوع کو پڑھیے، جہاں اصحاب کہف، کا تذکرہ ہے۔ یہ اصحاب کہف وہ لوگ ہیں جو انسانی بستیوں سے دور ہٹ کر ایک محفوظ غار میں جا بیٹھے تھے، اور وہیں اپنے اللہ کی یاد میں مشغول ہو رہے تھے۔ یوں کہیے کہ غیر اجتماعی زندگی کی آخری شکل انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ قرآن مجید

نے ان کی اس سرگزشت کو جس انداز میں بیان کیا ہے اس سے ان کی اس روش پر کسی ہلکی سی ہلکی ناپسندیدگی کا بھی اظہار نہیں ہوتا۔ اس کے بخلاف اس نے اسے خدا پرستی کے ایک قابلِ قدر اور اونچے نمونے کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور ان غارتشیوں کو ایمان میں سچتہ، اور ہدایت میں بلند مرتبہ، قرار دیا ہے:

إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُمَّتٍ أُوتِيَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِمْ

ہُدی۔ دکن: ۱۳

”بلاشبہ یہ (کچھ) ایسے جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے

تھے، اور جنہیں ہم نے ہدایت کی افزونی عطا فرمائی تھی۔“

اسی طرح یہ حدیثیں دیکھیے:

۱۱ قَالَ رَجُلٌ آتَى النَّاسِ أَفْضَلَ يَارَسُولَ اللَّهِ

قَالَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

قَالَ شَعْبٌ مِّنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٌ مُّعْتَزِلٌ فِي

شُعْبٍ مِّنَ الشُّعْبِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدْعُمُ النَّاسَ

مِنَ شَيْءٍ۔

مسلم، باب فضل الجہاد والرباط

”ایک شخص نے پوچھا: ”اے اللہ کے رسول! سب سے

افضل انسان کون سا ہے؟“ فرمایا: ”وہ مسلمان جو اپنی جان و مال

سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔“ اس نے کہا: ”پھر کون؟“ ارشاد

ہوا: ”پھر وہ مسلمان جو کسی گھاٹی میں جا کر گوشہ نشین ہو گیا ہو وہاں

اپنے رب کی عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے دور چھوڑے  
ہوتے ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں "يَا أَيُّهَا  
النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ" کے موقع پر "يَعْتَزِلُ شَرُّوَرِ النَّاسِ" (لوگوں  
کے شر کو چھوڑے ہوتے اور اس سے دور رہتا ہوں) کے الفاظ ہیں۔  
(فتح الباری، جلد ۶ - صفحہ ۴۳)

(۲) يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ خَيْرٌ مَالِ السُّلَيْمِ الْغَنَمِ  
يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرِيدِينَا  
مِنَ الْفِتَنِ - (بخاری باب العزلة راحة من خلائط السوء)

"لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ایک مسلمان

کی سب سے اچھی دولت اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر  
وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور پانی کی جگہوں میں گھومتا پھرے گا، اپنے  
دین کو سینے سے لگائے فتنوں سے بھاگتا رہے گا۔"

ان حدیثوں کے آئینے میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اگر مومن جماعتی  
زندگی سے الگ ہو کر یا حق میں مصروف ہو رہے تو یہ کوئی غلط بات نہ ہو  
گی، بلکہ ایک بہترین رویہ ہوگا جو اس نے اپنایا ہوگا۔

**عزیمت نہیں رخصت**

بلاشبہ اس طرح کی باتیں اور ہدایتیں بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اور  
جب ایک چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو وہ بھی ٹھیک اسی طرح اسلامی

ہی ہے جس طرح کہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں 'اسلامی' ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کہ یہ تنہائی کی زندگی بھی مطلقاً اسلامی زندگی ہے اور جب بھی اسے اختیار کیا جائے گا ٹھیک اسی طرح معیاری اور اللہ و رسول کی پسندیدہ زندگی قرار پائے گی جس طرح کہ منظم اجتماعی زندگی قرار پانے لگی ہے، یا کچھ اور؟ اس سوال کا صحیح جواب معلوم کرنے کے لیے ہمیں ذیل کی تین اصولی باتوں پر غور کرنا ہوگا۔

۱) ایک منظم اجتماعی زندگی اختیار کرنے کی جو ہدایتیں مسلمانوں کو دی گئی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟

(۲) انسان کے پیدا کیے جانے کی غرض و غایت، اور امت مسلمہ کا مقصد وجود، یہ دونوں چیزیں گوشہ نشینی کے رویے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟۔

(۳) خود قرآن اور حدیث کے وہ ارشادات، جن سے گوشہ نشینی کے رویے کا 'اسلامی' ہونا ثابت ہوتا ہے، اس بارے میں عام اور بے قید ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں، یا حقیقت واقعی اس کے خلاف ہے؟

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اس سلسلے کی ساری ضروری تفصیلات ہمارے سامنے آہی چکی ہیں۔ ان سے حقیقتِ واقعی قطعاً یہ نہیں معلوم ہوتی کہ جماعتی زندگی بھی اسلام کو مطلوب ہے، بلکہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اصلاً صرف جماعتی زندگی ہی اسے مطلوب ہے۔

وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ "عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ" (اجتماعی زندگی کو لازم پکڑو)

بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ: **إِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ**، (افتراق اور علیحدگی سے پوری طرح دور ہو)

اور یہ کہ: **الْتَّمَايَا كُلِّ الدَّيْبِ مِنَ الْغَنِيمِ الْقَاصِيَةِ**، (رگے سے دور اور انگ ہو جانے والی ایسی بکری بھیڑیے کا لقمہ جا کرتی ہے) اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں لیا جاسکتا کہ شریعت نے جماعتی زندگی بسر کرنے کی جو ہدایت دی ہے اس کی تکمیل اختیاری نہیں بلکہ لازمی ہے۔

رہی دوسری بات، تو نہ تو انسان کے پیدا کیے جانے کی غرض و غایت ہی گوشہ گیری کے رویے سے میل کھاتی ہے، نہ اُمتِ مسلمہ کا مقصد وجود ہی اسے گوارا کرتا ہے۔ انسان کے پیدا کیے جانے کی غرض و غایت قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی 'خلافت' اور اس کی 'عبادت' بتائی ہے۔ اگر گوشہ گیری کی زندگی بھی منظم اجتماعی زندگی ہی کی طرح علی الاطلاق اسلامی زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اختیار کرنا کسی حال میں بھی اور کسی شخص کے لیے بھی غلط نہیں ہو سکتا، ہر مسلمان اسے اختیار کر سکتا ہے، ہر سر دیلت کو اس کی ترغیب دی جاسکتی ہے، بلکہ یوں کہتے کہ تاکید کی جاسکتی ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ کم از کم منطقی طور پر ایک ایسی حالت کا بھی تصور کیا جاسکتا ہے، یا ایسی حالت بھی پسندیدہ اور مطلوب ہو سکتی ہے، جب کہ سارے مسلمان گوشوں میں جا بیٹھے ہوں۔ لیکن یہ صورت حال اگر وجود میں آجاتے تو بجائے خود وہ چاہے جتنی بھی پسندیدہ ہو، اتنی بات تو بالکل قطعی ہے کہ اس کی موجودگی میں وہ غایت کبھی پوری نہ ہو سکے گی جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایسی

صورت میں اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی 'خلافت' کا فریضہ ادا ہونے کا کوئی عملی امکان ہی باقی نہ رہ جائے گا، اور اس کی عبادت اور خدامت اطاعت اس طرح کہیں بھی انجام نہ دی جاسکے گی جس طرح اسے انجام دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح اُمتِ مسلمہ کا مقصد وجود امر بالمعروف، دشہادتِ حق، اور اقامتِ دین، ٹھیرایا گیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اُمت اگر گوشوں میں مقنک ہو جاتی ہے تو وہ کسی وقت بھی اپنے اس فرض سے عہدہ برآ ہو سکے گی! آخر جہاں کوئی معاشرہ ہی نہ ہو وہاں امر بالمعروف، کئے کتنے مواقع پیش آسکیں گے؟ حق کی شہادت کس طرح دی جاسکے گی؟ اللہ کا دین کہاں اور کن لوگوں پر قائم کیا جاسکے گا؟ اب ان حدیثوں اور قرآنی اشارات کو لیجیے جن سے گوشہ گیری کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے!

پہلی حدیث میں جہاں کسی گھاٹی میں جا کر گوشہ نشین ہو جانے والے اور اپنے رب کی عبادت کرنے والے کو ایک اونچے درجے کا مومن بتایا گیا ہے، وہیں اس کے اندر دو باتیں اور بھی موجود ہیں۔

ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہِ خدا میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے مومن اور کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو جانے والے مومن، دونوں کا ذکر ایک ہی ساتھ نہیں فرمایا ہے، بلکہ پوچھنے والے کے اس سوال پر کہ "سب سے افضل انسان کون سا ہے؟" آپ صاف فرمایا کہ خاموش ہو رہے کہ "وہ مسلمان جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے" اور جب اس نے دوبارہ پوچھا کہ "پھر کون؟" تب اس دوسرے



شخص کا تذکرہ فرمایا اور وہ بھی "پھر" کے لفظ کی مراحت کے ساتھ۔  
 دوسری یہ کہ اس گوشہ نشینی کی ایک خاص ضرورت اور اس کا ایک  
 خاص محرک ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ انسان دوسروں کو اپنے شر سے، یا  
 اپنے آپ کو دوسروں کے شر سے بچانا چاہتا ہو۔

یہی حال دوسری حدیث کا بھی ہے۔ اس میں بھی گوشہ گیری کی ترغیب  
 کے ساتھ دو اہم باتیں ارشاد ہوئی ہیں:

ایک تو یہ کہ "لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے" دوسرے  
 لفظوں میں یہ کہ وہ کوئی غیر معمولی زمانہ ہوگا جس کے کچھ خاص حالات ہوں  
 گے۔

تیسری یہ کہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو خدا ترس لوگ اپنی بکریاں لے کر  
 پہاڑوں اور گھاٹیوں میں اس لیے نکل جائیں گے، یا انہیں اس لیے نکل جانا  
 چاہیے تاکہ ان کا دین فتنوں سے محفوظ رہے۔

اسی طرح اصحاب کہف کے جس واقعے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن  
 حکیم گوشہ تنہائی کی زندگی کو بھی پسندیدہ اسلامی زندگی قرار دیتا ہے، اس  
 کی تفصیل میں یہ امور بھی موجود ہیں:

ایک تو یہ کہ ان حضرات کی تعداد چند سے زیادہ نہیں تھی، جب کہ ان کی  
 پوری قوم مشرک تھی۔

دوسرے یہ کہ قوم کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان نہ اظہار کیا، اسے  
 توحید کی دعوت دی۔

اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ -

دکھت: ۱۴

نہ صرف دعوت دی، بلکہ اتمامِ حجت کی حد تک دعوت دی اور بحث و  
مناظرے میں اسے بند کر دیا۔

هُوَ لَا يَرْجُو مَنَا التَّخَذُ وَاَمِنْ دُونِهِ اِلَهَةٌ لَوْلَا يَأْتُونَ  
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ بَيِّنٌ -

دکھت: ۱۵

تیسرے یہ کہ غار کو انہوں نے اپنی قیام گاہ نہیں بلکہ پناہ گاہ بنایا تھا،  
اور یہ پناہ بھی انہوں نے اس وقت لی تھی جب ان کی قوم انہیں برداشت  
کرنے سے انکار کر چکی تھی اور اب انہیں بستی میں ٹیکے رہنے کے لیے اپنے  
ایمان اور اپنی جان میں سے ایک کی بھینٹ دینا ضروری ہو گیا تھا۔

اِنَّكُمْ اِنْ يَّظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجِسُوْكُمْ  
فِيْ مِلَّتِهِمْ - دکھت: ۲۰

قرآن اور حدیث کے ان ارشادات کا یہ جائزہ صاف بتاتا ہے کہ

ان سے گوشہ نشینی کا رویہ اختیار کرنے کی جو ہدایت ملتی ہے، وہ عام اور  
بے قید ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ بعض قیدوں اور شرطوں کے ساتھ مقید ہے۔  
کچھ خاص حالات ہیں جن کے اندر ہی اس رویے پر عمل ہوا کرتا ہے۔  
ایک دینی ضرورت، یا یوں کہیے کہ ایک بہت بڑی دینی مجبوری ہوتی ہے  
جس کے تحت مسلمان کو ادھر جانا پڑتا ہے۔

گوشہ گیری کی زندگی کس نوع کی اسلامی زندگی ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے جن مختلف پہلوؤں سے غور و فکر ہونا چاہیے تھا، ان سب پر ہم ضروری حد تک غور و فکر کر چکے۔ اس کی روشنی میں اس خیال کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ گوشہ نشینی کی زندگی اور جماعتی زندگی، دونوں ہر حیثیت سے یکساں طور پر اسلامی زندگی ہیں۔ اس کے برخلاف حقیقت واقعی یہ قرار پاتی ہے کہ اصل اسلامی زندگی صرف جماعتی زندگی ہے، اور بنیادی طور پر صروت وہی قابل اختیار ہے۔ رہی گوشوں کی زندگی، تو وہ اصل اسلامی زندگی ہرگز نہیں ہے کہ اسے عام حالات میں اختیار کیا جاسکتا ہو۔ بلکہ وہ صرف 'عارضی قسم' کی اسلامی زندگی ہے، جسے بعض خاص حالات میں، اور انتہائی اہم مجبوری کے وقت ہی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ خاص حالات، فتنہ و شر کے حالات ہیں، اور یہ انتہائی اہم مجبوری، اپنے دین و ایمان کی مجبوری ہے۔ یعنی وہ جماعتی زندگی، جو مسلمان کو دراصل اپنے دینی تعافیے پورے کر سکنے اور اپنے ایمان کی نشوونما ہی کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ جب اپنی اس حیثیت سے بڑی حد تک محروم ہو جاتی ہے، اپنی یہ مطلوبہ افادیت کھو دیتی ہے، اور دین و ایمان کے میاں میں اٹا عمل کرنے لگتی ہے، تو وہ اسے چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بڑے قلق اور انتہائی حسرت کے ساتھ گوشوں والی زندگی کو ارا کر لیتا ہے۔ جہاں انسانی تخلیق کی غرض و غایت، اور امت مسلمہ کا مقصد وجود پورا کر سکنے کے مواقع ایک قابل لحاظ حد تک بالکل ناپید ہوتے ہیں؟

اور اللہ کی بندگی صرف ادھوری ہی کی جاسکتی ہے۔

غرض ایمان و اسلام کا اصل وطن تو جماعتی زندگی ہی ہے، اور وہ جیسا چاہیے وہیں پروان چڑھ سکتے اور برگ و بار لاسکتے ہیں لیکن جب ان کا یہ وطن، انہیں اطمینان کا سانس نہیں لینے دیتا تو وہ مجبوراً سرزمین غیر میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں، اور گوشوں میں جا کر مسافرت کی جیسی تیلیسی زندگی گزار لے جانے کے سوا ان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا۔

صرف یہی نہیں کہ گوشہ گیری کی زندگی عارضی قسم کی اسلامی زندگی ہے بلکہ جماعتی زندگی کے مقابلے میں اس کا درجہ بھی وثنانوی قسم کا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس زندگی کو مجبوری کی وجہ سے اور دین و ایمان کے مفاد ہی میں اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں اپنی کسی کوتاہی کا دخل نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود امر واقعی یہی ہے، اور یہ 'مجبوری' اور 'بے قصوری' اس طرز زندگی کو اصل اسلامی زندگی کا ہم پایہ نہیں بنا دے سکتی، نہ گوشوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اجتماعی زندگی میں رہ کر یہ فرض بجالاتا ہے۔ اس فرق مراتب کی وجہ بالکل کھلی ہوئی ہے۔ پہلے شخص کی عبادت، نماز روزے وغیرہ چند انفرادی اعمالِ بندگی تک محدود رہتی ہے، جب کہ دوسرے کی عبادت ان انفرادی اعمال سے شروع ہو کر جانی اور مالی جہاد فی سبیل اللہ جیسی آخری حد و بندگی تک وسیع ہوتی ہے۔ اس لیے حق یہی ہے کہ پہلے کا مرتبہ دوسرے سے فروتر ہو۔ یہ صرف عقل اور قیاس ہی کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشادات میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔

پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ سب سے افضل انسان کون ہوتا

ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے

جہاد کرنے والے مومن، اور کسی گھائی میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت

کرنے والے مومن، دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ صرف پہلی

قسم کے مومن کا ذکر کر کے خاموش ہو رہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ

حقیقی معنوں میں "سب سے افضل انسان" صرف اسی طرح کے اہل ایمان

ہوتے ہیں، کوئی دوسرا مومن ان کا ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ جب دوبارہ پوچھا گیا کہ "پھر کون؟" تو ارشاد ہوا کہ:

"پھر وہ مومن جو کسی گھائی میں جا کر گوشہ نشین ہو گیا ہو

اور وہاں اپنے رب کی عبادت کرتا ہو۔"

یہ پوچھنے والے کا "پھر" کا لفظ استعمال کرنا، اور آپ کی طرف سے

جواب کا بھی اسی لفظ سے شروع ہونا اس حقیقت کو روشن سے روشن کر دیتا

ہے کہ گوشہ نشینی کا مقام جماعتی زندگی کے مقابلے میں بہر حال نسو و تراود

ثانوی درجے کا ہے۔ شریعت کی زبان میں اسے یوں کہا جائے گا کہ گوشہ گیری

کا راستہ رخصت، کاراستہ ہے، عزیمت کا نہیں۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے

اپنی سنن میں گوشہ گیری سے متعلق حدیث بیان کرنے کے لیے باب ہی

"الرخصة في التبدی في الفتنة" کے عنوان کا قائم کیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس طرز زندگی کے 'اسلامی' ہونے کے باوجود ہم کسی پیغمبر

کا اسوہ اس کے حق میں نہیں پاتے۔ ہزاروں انبیاء میں سے کوئی نہ تھا جس نے کبھی اس روش کو اپنایا ہو۔ حالانکہ انہیں جس طرح کے سخت حالات سے سابقہ پیش آیا تھا، ہم اس کا ٹھیک ٹھیک تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، اس لیے ان کے لیے ایک ایسی روش کا اختیار کرنا ممکن نہ تھا جسے اختیار کرنے کے بعد وہ انسانی آبادیوں سے علیحدہ ہو رہتے، اور جو عزیمت کی نہیں رخصت کی راہ تھی۔ اور یہ اس لیے کہ انسانی آبادیوں سے علیحدہ ہو جانے کے بعد تو وہ پیغمبری کا فریضہ ہی انجام نہیں دے سکتے تھے اور رخصت کی راہ اپنانے کی ضرورت انہیں اس لیے نہیں پیش آ سکتی تھی کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچانے، یا اپنے ردین و ایمان، کو دوسروں کے شر سے محفوظ رکھنے کا یہاں کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ رہی جان کے خطرے کی بات، تو یہ حضرات اپنی جان کو اپنی سمجھتے ہی کب تھے کہ اسے بچانے کے لیے وقت کے جباروں سے دُور بھاگنے کے ضرورت مند ہوتے۔

### حالات و شرائط

اب یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ کون سے مخصوص حالات ہیں جن میں شریعت نے رخصت کی یہ راہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے؟ جہاں تک اس سوال کے اصولی جواب کا تعلق ہے وہ تو اوپر کی بحث میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ اسلام کی مطلوبہ اجتماعی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو جانے کی ہدایت یا رخصت صرف اس وقت ہے جب معاشرہ شر اور فتنہ کی لپیٹ میں آ گیا ہو، اور صرف اس شخص کو ہے جو اس شر اور

فتنے سے اپنے ذہن و ایمان کو بچانے کے لیے ایسا کرنا ضروری سمجھتا ہو۔ چنانچہ

دوسری حدیث کے الفاظ: "يَفْزُبُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ"۔

صاف اسی حقیقت کی نشان دہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح پہلی حدیث کے بارے میں بھی علماء نے صراحت کی ہے کہ اس میں "کسی گھاٹی میں جا کر گوشہ نشین ہو جانے" کی جو بات فرمائی گئی ہے اس کا تعلق صرف فتنوں کے زمانے سے ہے۔

وهو مقيد بوقوع الفتن (فتح الباری، جلد ۶)

اور خود حدیث کے آخری الفاظ "يَدْعُمُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ" سے بھی

یہی معلوم ہوتا ہے۔

لیکن اس مجمل اور اصولی جواب سے بات غالباً پوری طرح واضح نہ ہو

سکے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس فتنے، اور شر کی نوعیت متعین

کی جائے جس کا ان حدیثوں میں ذکر ہے، اور معلوم کیا جائے کہ اس سے کس

قسم کا فتنہ و شر مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے مراد مطلق فتنہ و شر تو ہو نہیں سکتا،

کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے تو دنیا کا کوئی زمانہ بھی فتنے اور شر سے خالی نہ تھا۔

حتیٰ کہ خود دور نبوت اور دور خلفائے راشدین بھی بے فتنہ اور بے شر نہ تھے۔

کیونکہ ان دنوں بھی کم از کم نفاق کے فتنے تو موجود ہی تھے، اور باہمی اختلافات

کے خون ریز ہنگامے سر اٹھاتے رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فتنہ و شر،

جس میں مومن کو اجتماعی زندگی سے اور اس کی ذمہ داریوں سے الگ ہو کر

صرف اپنی ہی فکر میں لگ جانیے کی رخصت دی گئی ہے، لازماً غیر معمولی قسم کا فتنہ و شر ہے۔ کس حد تک اور کس قسم کا غیر معمولی؟ اس امر کی وضاحت کے لیے مذکورہ احادیث کے ان جملوں پر پھر سے اور گہری نظر ڈالیے:

”يَفْزِدُ بَيْنَهُ مِنَ الْفِتَنِ“ ”يَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ“

”يَدَّءُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ“

یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ”شر“ اور ”فتنہ“ سے مراد معاشرے کے ایسے سخت

ابتر حالات ہیں جن کے اندر مسلمان اپنی ساری حفاظتی تدبیروں کے باوجود اپنے دین و ایمان کو محفوظ نہ پاتا ہو، اور شر و باطل کے بڑھتے ہوئے زبردست دباؤ میں ان کا مستقبل اسے تاریک دکھائی دیتا ہو۔ اس حد تک تاریک کہ اب دوسروں کی بُرائیاں اس کے دل و دماغ پر بھی اثر ڈال دیں گی، اور وہ بھی ماحول کی نجاستوں میں لت پت ہو رہے گا، اور کچھ بعید نہیں کہ کل وہ خود ہی بُرائی کا پرچارک اور فتنہ و شر کا علمبردار بن جائے۔

یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر حالات ایسے خراب نہ ہوں،

کہ دین و ایمان کے حق میں انہیں اتنا خطرناک کہا جاسکے، تو پھر اس رخصت پر عمل کرنا صحیح نہ ہوگا، اور ایسی شکل میں مومن کو اس بات کی اجازت نہ ہوگی کہ جماعتی زندگی سے علیحدہ ہو جائے، اپنی نظم و اجتماعیت کے مطالبات سے منہ موڑ لے، صرف اپنی ہی ذات سے واسطہ رکھے، اور ملت کو اپنے حال پر چھوڑ دے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی اجتماعی حیثیت بھی کھوتی چلی جائے، اور اس کی راہ کے اندر خیر و صلاح کی جو چنگاریاں دبی و باقی موجود ہوں



وہ بھی روز بروز بھتی چلی جاتیں، اور اس طرح وہ اپنے مقصد و وجود سے عملاً دُور سے دُور تر ہوتی چلی جاتے۔ ہاں اس رخصت پر عمل اُس وقت ضرورتِ قابلِ برداشت ہو سکتا ہے جب ملت میں مطلوبہ نظمِ اجتماعی بالفعل موجود ہو، اور معاشرے میں خیر غالب ہو۔ ایسی حالت میں اگر کچھ لوگ اپنے مخصوص ذوق کی بنا پر گوشوں میں جا بیٹھیں اور باہر کی دنیا سے بے تعلق ہو رہیں، تو کہا جاسکے گا کہ ملتِ بحیثیتِ مجموعی اپنا فرض پورا کر رہی ہے اور اس کی بہت بڑی اکثریت اس کی خدمت اور پاسبانی میں لگی ہوئی ہے، اس لیے کوئی مضائقہ نہیں اگر کچھ لوگ گوشہ نشین ہو گئے اور اپنی ہی ذات تک اپنی تربیتی اور دینی کوششیں محدود کر بیٹھے ہیں، اگرچہ پھر بھی اتنی بات تو لازماً کہی جائے گی کہ انہوں نے ایک زیادہ اچھے کام کو چھوڑ کر کم اچھے کام پر قناعت کر لی ہے۔ لیکن اگر ملت اس حال میں نہ ہو، اگر وہ اپنا جماعتی نظم کھوتی جا رہی ہو، اگر مومن "الجماعۃ" سے پھیر پھرتے جا رہے ہوں، اگر اگر مسلم معاشرے کا اجتماعی رُخِ اسلام کے بجائے کسی اور طرف ہوجلا ہو، مختصر یہ کہ صحیح اسلامی نظامِ اجتماعی اگر کارفرما باقی نہ رہ گیا ہو تو کسی واقعی خطرہ دین کے بغیر گوشہ گیر ہوجانا اور ملت کی اجتماعی زندگی کو سسکتا چھوڑ دینا ہرگز اسلامی طرزِ زندگی اور دینی طریقِ زندگی نہیں۔

عمل کی صورتیں

آخر میں ایک مسئلہ اور وضاحت طلب رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ گوشہ گیری، کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اور اعتزال، (اجتماعی زندگی سے علیحدگی)

کی جس روش کے اختیار کرنے کی رخصت شریعت نے دی ہے، اس کی حدود کیا ہیں؟ اس سوال کے جواب میں کسی ایک ہی صورت کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ کیونکہ اس کا انحصار تمام تر حالات پر ہے، جو ہر شخص کے لیے، اور ہر زمانے میں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کے دین و ایمان کے لیے حالات جس حد تک ناسازگار اور خطرناک ہوں گے۔ اسی کی مناسبت سے اسے گوشہ نشینی اور اعتزال کی شکل بھی اختیار کرنی ہوگی،

مثلاً :-

یہ حالات اگر خدا نخواستہ، ابتری کی اس حد کو پہنچ گئے ہوں کہ دین کے بنیادی اصولوں پر بھی قائم رہنا دشوار ہو چکا ہو، اور اس کی بنیادی تعلیمات کا اعلان و اظہار بھی برداشت نہ کیا جاتا ہو تو اس وقت گوشہ گیری کے انتہائی مفہوم اور اس کی آخری شکل کو اختیار کیا جائے گا۔ جس کی مثال اصحابِ کہف کے اُسوے میں موجود ہے۔ انہوں نے مکمل علیحدگی اور غار نشینی اس وقت اختیار کی تھی جب ان کے لیے اپنی بستی کے اندر کلمہ حق کہنے کی اجازت باقی نہ رہ گئی تھی، اور انہیں یقین سا ہو گیا تھا کہ اب دعوت حق لوگوں کے سامنے ہماری زبانوں سے نکلی کہ ہم پر پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔

اور اگر حالات اتنے خطرناک نہ ہوتے ہوں تو اس وقت گوشہ گیری اور علیحدگی کی جو شکل اپنائی جائے گی، وہ ایسی نہ ہوگی، بلکہ اس سے بہر حال کتر درجے کی ہوگی۔ یعنی کچھ اس طرح کی کہ انسان آبادی کو ایک قلم تونہ چھوڑے،

مگر عام اجتماعی معاملات سے الگ ہو جاتے، فتنے کے عکس برداروں کو اپنے حال پر چھوڑ دے، اور ان کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے ہاتھ اور زبان کی کوششوں کے بجائے صرف دل سے بُرا ماننے پر اکتفا کر لے۔ بس اپنی ناگزیر ضروریاتِ زندگی کے لیے کوئی جائز ذریعہ معاش، جو بہر حال معمولی قسم ہی کا ہو سکتا ہے، اختیار کر لے اور اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے، نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ کا اہتمام رکھے اور عام انسانوں کے جو حقوق اس پر عاید ہوتے ہیں انہیں ادا کرتا رہے۔

جہاں تک عام اندازے کا تعلق ہے، ایک بدتر سے بدتر مسلم معاشرے میں بھی جس خراب صورت حال کا اندیشہ کیا جاسکتا ہے، وہ بس اسی قسم کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خود ان حدیثوں میں، جن کے اندر اس 'اعتزال' اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے کی رخصت یا ہدایت دی گئی ہے، نماز کی اقامت اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ادائے زکوٰۃ کا حکم بھی موجود ہے۔ یہ حکم صاف طور سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اسی وقت عمل میں آسکتی ہے جب دوسرے انسانوں سے ربط و تعلق کچھ نہ کچھ باقی ہو۔ غاروں اور گپھاؤں میں تو اس کی کوئی عملی شکل ممکن ہی نہ رہے گی۔

## فیصلے میں احتیاط کی ضرورت

آخر میں اس اہم ترین حقیقت کا یاد دلادینا بھی ضروری ہے کہ حالات کی

نراکت اور خطرناکی کا درجہ متعین کرنے میں بڑی سخت اور انتہائی بے لاگ جائزے سے کام لینا چاہیے۔ کیونکہ انسانی فطرت کے دورِ بحانات ایسے ہیں جو اس معاملے میں صبح فیصلے تک پہنچنے میں زبردست روک بن سکتے ہیں اور بنتے رہے ہیں۔

ایک تو گوشہ نشینی کا رجحان۔

دوسرا تن آسانی کا رجحان۔

اس لیے اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کوئی شخص ان میں سے کسی رجحان کی بنا پر گوشہ گیری کی طرف بذاتِ خود مائل ہو جائے، اور اپنے اسی ذاتی میلان کے زیر اثر حالات کی خطرناکی کا اندازہ کرنے میں مبالغہ کر بیٹھے، اور انہیں اپنے دین و ایمان کے حق میں اتنا خطرناک سمجھ لے جتنا کہ وہ فی الواقع نہیں اور پھر گوشہ نشینی کے بارے میں وارد ہونے والی حدیثوں کو اپنے لیے ایک سہارا بنا کر ملی تنظیم اور جماعتی زندگی سے الگ ہو جائے، یا اگر یہ تنظیم اور اجتماعیت موجود نہ ہو تو اسے از سر نو قائم کرنے کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آزاد قرار دے لے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ فیصلہ دراصل اپنے ذاتی ذوق و رجحان کی تسکین کے لیے ہوگا، احادیثِ رسول کی پیروی کے لیے نہ ہوگا۔

ایک مومن کی حقیقی پسند اور اس کی آخری کوشش تو اس کے بائیسے میں یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو، اجتماعیت سے چٹا رہے اور اس کی بقا و ترقی یا بحالی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھارے، اور اس سے علیحدگی کی اسی وقت سوچے جب وہ اس کے دین و ایمان کے لیے فی الواقع گنجلے ہوئے خطرے کی

شکل اختیار کر چکی ہو۔ اور اس وقت بھی اس کی یہ علیحدگی کسی احساس پسندیدگی کے ساتھ نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام نے دین اور دین داری کا جو تصور دیا ہے، اس کی رو سے یہ فی الواقع کوئی پسند کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اجتماعی زندگی کو چھوڑ دینا کچھ بڑھے ہوئے ناخنوں کا تراش پھینکنا نہیں ہے کہ اس سے راحت محسوس کی جائے، بلکہ گوشت کا ناخن سے جدا ہو جانا ہے جس کی اذیت اٹھانے کے لیے کوئی ذی شعور اپنی خوشی سے کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔

بیماری	علل	تشخیص	علاج
1. سرخ جھکڑ	1. گرمی	1. سرخ جھکڑ	1. گرمی
2. سفید جھکڑ	2. سردی	2. سفید جھکڑ	2. سردی
3. سرخ جھکڑ	3. گرمی	3. سرخ جھکڑ	3. گرمی
4. سفید جھکڑ	4. سردی	4. سفید جھکڑ	4. سردی
5. سرخ جھکڑ	5. گرمی	5. سرخ جھکڑ	5. گرمی
6. سفید جھکڑ	6. سردی	6. سفید جھکڑ	6. سردی
7. سرخ جھکڑ	7. گرمی	7. سرخ جھکڑ	7. گرمی
8. سفید جھکڑ	8. سردی	8. سفید جھکڑ	8. سردی
9. سرخ جھکڑ	9. گرمی	9. سرخ جھکڑ	9. گرمی
10. سفید جھکڑ	10. سردی	10. سفید جھکڑ	10. سردی

# اسلام کا اعلیٰ تصوری سمجھنے کیلئے بلند پایہ کتب

۱۲-۸۰	۱۶	۱	اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات	سید ابوالاعلیٰ مودودی
	۱۱	۲	تنقیحات	"
		۳	جادو و منزل	سید قطب شہید
		۴	اسلام اور اجتماعیت	صدر الدین اصلاحی
۳	۵-۴۵	۵	دین کا قرآنی تصور	"
	۷	۶	فریضہ امامت دین	"
	۸	۷	معروف و منکر	سید جلال الدین انصاری

## تعمیر سیرت و کردار کے لیے بہترین کتب

۱۲	۱	اساس دین کی تشریح	صدر الدین اصلاحی
۵-۵	۲	حقیقت نفاق	"
۱۷	۳	آداب زندگی	محمد یوسف اصلاحی
۵-۵	۴	نشری تقریریں	سید ابوالاعلیٰ مودودی
	۵	دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات	"
۱۱	۶	تفتوت اور تعمیر سیرت مولانا مودودی کی تحریروں کی روشنی میں مرتبہ، عاصم نعمانی	"
۸-۵	۷	پہاڑی کے چراغ	آباد شاہ پوری
۱۰	۸	الذکار سنونہ	ترجمہ: خلیل احمد حامدی
۱۹	۹	کشت الحروب	میاں طفیل محمد
۸	۱۰	مسلمانوں کے روز و شب	سید احمد گیلانی



بہ مصطفیٰ برساں خویش کہ دیں ہمہ اوست

سیرت پاک پرتین بہترین کُتُب !

نعیم مستدقی کے قلم سے

سیرت کا اعلیٰ پہلو، اچھوتا انداز  
— مستند تاریخ —

محسن انانیت

اعلیٰ ایڈیشن :  
ستا ایڈیشن :

عنایت اللہ سبحانی

دچھپ انداز، نیا طرز، منفرد پیرایہ

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم

اعلیٰ ایڈیشن :  
ستا ایڈیشن :

محمد عبیدالحی

آسان زبان میں — تحریری انداز میں

اعلیٰ ایڈیشن :  
ستا ایڈیشن :

منا حنیفہ

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ  
۱۳۰- ای شاہ عالم مارکٹ، لاہور  
۱۴- بیت المکرم — دھاکہ